अमर उजाला | सहारनपुर | मेरठ | बुधवार, 25 जुलाई 2018 | 4

सवा सौ करोड़ युवाओं को संगठन से जोड़ेगी जमीयत : मदनी

अमर उजाला ब्यूरो

देवबंद (सहारनपुर)। जमीयत उलमा-ए-हिंद ने अपने पायलट प्रोजेक्ट जमीयत यूथ क्लब का परिचयात्मक कार्यक्रम व प्रदर्शन का आयोजन किया। जिसमें गुजरात, मेवात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चयनित सौ छात्रों ने कला का प्रदर्शन किया।

मंगलवार को फिरदौस गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना सैय्यद महमूद मदनी ने जमीयत यूथ क्लब का परिचय पेश करते हुए अगले दस वर्षों में दुनियाभर से सवा सौ करोड़ युवकों को जोड़ने का एलान करते हुए कहा कि योजना के अनुसार अगले छह महीनों में दस हजार युवाओं को प्रशिक्षण देकर तैयार कर वर्ष 2019 में एक सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते राष्ट्रीय महासचिव मौलाना महमूद मदनी।

देश के मौजूदा हालात में जिस तरह हर मोर्चे पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इससे युवाओं में निराशा, विश्वास का अभाव और खुद की पहचान के गुम होने की भावना पैदा होने लगी है। इसलिए इस समय सबसे बड़ी जरूरत है कि मुसलमानों को इस गंभीर संकट से निकाला जाए और यह तभी संभव है जब मिल्लत का हर व्यक्ति एक दूसरे के सहयोगी बनें।

सवा सौ करोड़ युवाओं को संगठन से जोड़ेगी जमीयत : मदनी

जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय महासचिव ने पायलट प्रोजेक्ट जमीयत यूथ क्लब का परिचय पेश किया

अमर उजाला ब्यूरो

देवबंद (सहारनपुर)। जमीयत उलमा-ए-हिंद ने अपने पायलट प्रोजेक्ट जमीयत यूथ क्लब का परिचयात्मक कार्यक्रम व प्रदर्शन का आयोजन किया। जिसमें गुजरात, मेवात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चयनित सौ छात्रों ने कला का शानदार प्रदर्शन किया।

मंगलवार को फिरदौस गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना सैय्यद महमूद मदनी ने जमीयत यूथ क्लब का परिचय पेश करते हुए अगले दस वर्षों में दुनियाभर से सवा सौ करोड़ युवकों को जोड़ने का एलान करते हुए कहा कि योजना के अनुसार अगले छह महीनों में दस हजार युवाओं को प्रशिक्षण देकर तैयार कर वर्ष 2019 में एक सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह नकारात्मक नहीं बल्कि रचनात्मक काम है। हमारा उद्देश्य ऐसे लोगों को तैयार करना है जो लोगों के रक्षक और सच्चे सेवक बन सकें तथा जरूरत पड़ने पर खुद की रक्षा कर सकें। आज मिल्लत सबसे आंतरिक संकट से जूझ रही है।

देश के मौजूदा हालात में जिस तरह हर मोर्चे पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इससे युवाओं में निराशा, विश्वास का अभाव और खुद की पहचान के गुम होने की भावना पैदा होने लगी है। इसलिए इस समय सबसे बड़ी जरूरत है कि मुसलमानों को इस गंभीर संकट से निकाला जाए और यह तभी संभव है जब मिल्लत का हर व्यक्ति एक दूसरे के सहयोगी बनें। मदनी ने कहा कि हम पिछले पांच वर्षों से युवाओं को मानसिक व शारीरिक प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए देश के मान्यता प्राप्त संस्थान भारत स्कॉउट गाइड का चयन किया गया है। अध्यक्ष मौलाना कारी सैय्यद उस्मान मंसूरपुरी ने कहा कि युवाओं का शारीरिक प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। क्योंकि उनके विद्यार्थी काल में दारुल उलूम में एक पहलवान रखा जाता था जो लोगों को शारीरिक व्यायाम करवाता था। उन्होंने कहा कि आज कुछ दल खुलेआम आपत्तिजनक हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। जिनका उद्देश्य दूसरों को डराना होता है। हम भी देश के कानून के दायरे में रहते हुए अपनी युवा शक्ति का खुलेआम प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान मौलाना महमूद मदनी ने हैरतअंगेज करतब दिखाने वाले युवाओं को सम्मानित किया।

अध्यक्षता मौलाना हसीब सिद्दीकी व संचालन मौलाना हकीमुद्दीन कासमी व नौशाद अली सिद्दीकी ने किया। इस मौके पर जहीन अहमद, मास्टर हिदायतुल्लाह, उमैर उस्मानी, मौलाना आकिल, कलीमुल्लाह, मौलाना मोहम्मद मदनी, सलीम उस्मानी, चौधरी सादिक, कारी इब्राहीम, मौलाना अजीमुल्लाह सिद्दीकी, मौलाना मेराजुद्दीन, याहया करीमी, मौलाना अब्दुल्लाह पालनपुरी आदि मौजूद रहे।

हैरतअंगेज करतब दिखाते स्काउट गाइड। अमर उजाला

कार्यक्रम को संबोधित करते राष्ट्रीय महासचिव मौलाना महमूद मदनी।

स्काउट गाइड को सम्मानित करते मौलाना महमूद मदनी। अमर उजाला

मीनार बनाते स्काउट गाइड। अमर उजाला

'जमीयत यूथ क्लब' परिचय एवं प्रदर्शन कार्यक्रम का देवबंद में आयोजन, युवाओ का शारीरिक प्रशिक्षण बेहद जरूरी: कारी उस्मान

रक्षा के लिए युवाओं को तैयार करेगी जमीयत : मदनी

देवबंद | हमारे संवाददाता

जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में देश का मुसलमान डरा और सहमा हुआ है। उन्होंने कहा कि जमीयत ने अपने पायलेट प्रोजेक्ट 'जमीयत यूथ क्लब' के माध्यम से ऐसे प्रशिक्षित युवा तैयार करने का बीड़ा उठाया है। जो लोगों के सच्चे रक्षक होंगे और जरूरत पड़ने पर स्वयं रक्षा भी करेंगे।

मंगलवार को फिरदौस गार्डन में आयोजित हुए 'जमीयत यूथ क्लब' परिचय एवं प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जमीयत यूथ क्लब का उद्देश्य नकारात्मक नहीं बल्कि रचनात्मक है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य ऐसे लोगों को तैयार करना है जो लोगों के रक्षक और सच्चे देश सेवक बन सकें। साथ ही वक्त पड़ने पर स्वंय की रक्षा भी करने में सक्षम हों। मौलाना मदनी ने जमीयत यूथ क्लब का परिचय कराते हुए बताया कि जमीयत द्वारा पांच वर्षों से युवाओं में मानसिक व शारीरक प्रशिक्षण को मजबुत करने के लिए सबल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी ने बताया कि जमीयत अभी तक पांच हजार छात्रों को प्रशिक्षण दे चुकी है।

देवबंद जमियत उलेमा-ए-हिन्द के कार्यक्रम को संबोधित करते मौलाना महमूद मदनी।

छह महीनों में 10 हजार युवा होंगे प्रशिक्षित

देवबंद। जमीयत उलेमा ए हिंद के बेनर तले आयोजित हुए जमीयत यूथ क्लब के परिचय एवं प्रदर्शन कार्यक्रम में देश के तीन राज्यों गुजरात, मेवात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चयनित सौ छात्रों ने विभिन्न हैरतअंगेज कला का प्रदर्शन किया। जिन्हें मौलाना महमूद मदनी ने अपने हाथों से प्रतीक चिन्ह व प्रमाणपत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान मौलाना मदनी ने घोषणा की कि अगले छह महीनों में दस हजार युवाओं को प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाएगा, जिनका एक सार्वजनिक प्रदर्शन फरवरी २०१९ में जमीयत द्वारा आयोजित किया जाएगा।

प्रशिक्षण के लिए भारत स्काउट एंड गाइड की मदद ली जा रही है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी संस्था है मानवता और समन्वयक राष्ट्र विधि सीख लाती है। उन्होंने कहा कि स्काउट एंड गाइड प्रशिक्षण से युवा शारीरिक और मानसिक रूप से समाज की बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जमीअत यूथ क्लब में स्कूल, कालेज और मदरसे के बच्चे शामिल हो सकेंगे।

कार्यक्रम में जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसुरपुरी ने कहा कि युवाओं का शारीरिक प्रशिक्षण बहुत जरुरी है। उन्होंने बताया कि उनके समय में दारुल उलूम देवबंद में एक पहलवान रखा जाता था जो बच्चों को शारीरिक व्यायाम करवाया करता था। मौलाना ने कहा कि वर्तमान समय में देश के भीतर कुछ संगठन खुलेआम आपत्तिजनक हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, जिनका उद्देश्य दूसरों को डराना होता है।

जमीयत यूथ क्लब का उद्देश्य नकारात्मक नहीं रचनात्मक है। हमारे प्रशिक्षित युवा कानून के दायरे में रहते हुए अपने युवा शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। मास्टर हिदायतुल्लाह सिद्दीकी कहा कि भारत स्काउट एंड गाइड, जमिअत यूथ क्लब और जमिअत उलेमा हिंद मिलकर देश और राष्ट्र की सेवा करने का काम करेंगे।

अध्यक्षता मौलाना हसीब सिद्दीकी व संचालन मौलाना हकीमउद्दीन क़ासमी और नौशाद अली सिद्दीकी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान मौलाना अब्दुलाह पालनपूरी, मौलाना मोहम्मद याहया, मौलाना मोहम्मद आकिल, मौलान मेराजुद्दीन, मौलाना कलीमुल्लाह, मौलाना मुफ्ती यामीन, हाफिज उबैदुल्लाह, मौलान मुहम्मद मदनी, मौलाना ज़हूर, ज़हीन अहमद, मौलाना इब्राहीम क़ासमी, उमेर उस्मानी, चौधरी सादिक़, मुफ्ती ज़ाकिर समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।

दैनिक जागरण

मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव 9 अगले मार्च तक तीन चौथाई साफ हो जाएगी गंगा : गडकरी 11

मुसलमानों को बनाया जा रहा निशाना : मदनी

देश व समाज सेवा को युवाओं से आगे आने का किया आह्वान, के गठन पर हुआ कार्यक्रम

संस, देवबंद (सहारनपुर) : जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि देश में मुसलमानों को हर मोर्चे पर निशाना बनाया जा रहा है। इससे खासतौर पर युवाओं में निराशा और विश्वास का अभाव है। इस मुश्किल घड़ी में मुसलमान एक-दूसरे के सहयोगी बने। इस कार्य के लिए युवा आगे आएं।

मंगलवार को फिरदौस गार्डन में जमीयत यूथ क्लब के गठन के अवसर पर हुए कार्यक्रम में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मुसलमानों को इतना मजबूत होना होगा कि कोई बाहरी ताकत उनका बाल बांका न कर सके। जमीयत यूथ क्लब का उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना है जो लोगों के रक्षक और सच्चे सेवक बन सकें। इसमें सहयोग के लिए देश के मान्यता प्राप्त संस्थान भारत स्काउट एंड गाइड का चयन किया गया है।

जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी उस्मान मंसूरपुरी ने कहा कि युवाओं का शारीरिक प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। मा. हिदायतुल्लाह सिद्दीकी ने कहा कि भारत स्काउट गाइड, जमीयत यूथ क्लब और जमीयत उलमा-ए-हिंद मिलकर देश और राष्ट्र की सेवा करेंगे। इस दौरान स्काउट गाइड ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। अध्यक्षता मौलाना हसीब सिद्दीकी व संचालन मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने किया। मौलाना अब्दुलाह पालनपुरी गुजरात, मौलाना मोहम्मद याहया करीमी मेवात, मौलाना मुहम्मद मदनी, मौलाना जहूर, जहीन अहमद, मौलाना इब्राहीम कासमी, उमैर उस्मानी, चौ. सादिक समेत गुजरात, मेवात और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जमीयत पदाधिकारी मौजूद रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते मौलाना महमूद मदनी और मंचासीन अतिथि ● जागरण

सवा करोड़ युवा जोड़ने का लक्ष्य: **मदनी:** जमीयत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने जमीयत यूथ क्लब का परिचय दिया। कहा, जल्द ही यूथ क्लब के पदाधिकारियों का गठन कर दिया जाएगा। मदनी ने कहा कि अगले दस वर्षों में सवा करोड़ युवकों को क्लब से जोड़ने का लक्ष्य है। योजना के अनुसार अगले छह महीनों में दस हजार युवाओं को प्रशिक्षण देकर देश व मानव सेवा के लिए तैयार किया जाएगा। इनका एक सार्वजनिक प्रदर्शन अगले वर्ष फरवरी माह में होगा।

दैनिक जनवाणी
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
एक सकारात्मक सोच

सक्षम युवाओं की फौज तैयार करेगी जमीयत : मौलाना मदनी

कार्यक्रम को सम्बोधित करते मौलाना महमूद मदनी। ■ छाया : जनवाणी

कार्यक्रम में हैरत अंगेज करतब दिखाते जमीयत युथ क्लब के प्रशिक्षित बच्चे।

प्रशिक्षित बच्चों को प्रतीक चिन्ह भेंट करते मौलाना महमूद मदनी।

● जनवाणी संवाददाता, देवबंद।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि वर्तमान हालात में देश का मुसलमान विशेषकर युवा डरा सहमा हुआ है। इसलिए जमीयत ने अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट 'जमीयत यूथ क्लब' के माध्यम से ऐसे प्रशिक्षित युवा तैयार करने का बीड़ा उठाया है, जो लोगों के सच्चे रक्षक होंगे और जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा भी कर सकेंगे।

मंगलवार को फिरदौस गार्डन में आयोजित हुए 'जमीयत यूथ क्लब' परिचय एवं प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मौलाना महमूद मदनी कहा कि जमीयत यूथ क्लब का उद्देश्य नकारात्मक नहीं बल्कि रचनात्मक है। कहा हमारा उद्देश्य ऐसे लोगों को तैयार करना है जो लोगों के रक्षक और सच्चे सेवक बन सकें और जरूरत पड़ने पर

जमीयत यूथ क्लब परिचय एवं प्रदर्शन कार्यक्रम संपन्न

युवाओं का शारीरिक प्रशिक्षण बेहद जरूरी

खुद की रक्षा भी करने में सक्षम हों। मौलाना मदनी ने जमीयत यूथ क्लब का परिचय कराते हुए बताया कि हम पिछले पांच वर्षों से युवा में मानसिक व शारीरक प्रशिक्षण पर काम कर रहे हैं, हमने पांच हजार छात्रों को प्रशिक्षण दिया है। इसके काम के लिए देश के मान्यता प्राप्त संस्थान भारत स्काउट एंड गाइड की मदद ली जा रही है। क्योंकि यह संस्था है मानव आधारित काम कराती है और समन्वयक राष्ट्र विधि सीखलाती है, ताकि युवा शारीरिक और मानसिक रूप से समाज की बेहतर सेवा कर सकें। कहा कि जमीअत यूथ क्लब में स्कूल, कालज और मदरसे के बच्चे इसमें शामिल हो सकेंगे।

जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी ने कहा कि युवाओं का शारीरिक प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारे अकाबिर विशेषकर हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी अंत उम्र तक मगदर चलाते थे। उन्होंने बताया कि हमारे विद्यार्थी काल में दारुल उलूम देवबंद में एक पहलवान रखा जाता था जो बच्चों को शारीरिक व्यायाम करवाया करता था। मौलाना ने कहा कि वर्तमान समय में देश के भीतर कुछ संगठन खुलेआम आपत्तिजनक हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, जिनका उद्देश्य दूसरों को डराना होता है। लेकिन जमीयत यूथ क्लब का उद्देश्य नकारात्मक नहीं रचनात्मक है। हमारे प्रशिक्षित युवा कानून के दायरे में रहते हुए अपने युवा शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। मास्टर शिहाबुद्दीन सिद्दीकी कहा कि भारत स्काउट एंड गाइड, जमिअत यूथ क्लब और जमिअत उलेमा हिंद मिलकर देश और राष्ट्र की सेवा करने का काम करेंगे। अध्यक्षता मौलाना हबीब सिद्दीकी व संचालन मौलाना हकीमउद्दीन कासमी और नौशाद अली सिद्दीकी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान मौलाना अब्दुल्लाह पालनपुरी, मौलाना मोहम्मद याहया, मौलाना मोहम्मद आकिल, मौलाना मेराजुद्दीन, मौलाना कलीमुल्लाह, मौलाना मुफ्ती यामीन, हाफिज उबैदुल्लाह, मौलाना मुहम्मद मदनी, मौलाना जहूर, जहीर अहमद, मौलाना इब्राहीम कासमी, उमेर उस्मानी, चौधरी सादिक, मुफ्ती जाकिर समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन कारी उस्मान मंसूरपुरी की दुआ के साथ हुआ।

छह महीने में दस हजार युवा होंगे प्रशिक्षित

देवबंद। जमीयत उलेमा ए हिंद के केसर तले आयोजित हुए जमीयत यूथ क्लब के परिचय एवं प्रदर्शन कार्यक्रम में देश के तीन राज्यों गुजरात, मेवात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चयनित सौ छात्रों ने विभिन्न हैरतअंगेज कला का प्रदर्शन किया। जिन्हें मौलाना महमूद मदनी ने अपने हाथों से प्रतीक चिन्ह व प्रमाणपत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान मौलाना मदनी ने घोषणा की कि अगले छह महीनों में दस हजार युवाओं को प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाएगा, जिनका एक सार्वजनिक प्रदर्शन फरवरी में जमीयत द्वारा आयोजित किया जाएगा।

शाह टाइम्स

तुलाज स्कूल का परिणाम रहा उत्कृष्ट

युवा शारीरिक व मानसिक रूप से समाज की कर सकते हैं सेवा:मदनी

शाह टाइम्स ब्यूरो

देवबन्द। युवा में मानसिक व् शारीरक प्रशिक्षण के लिए देश की मान्यता प्राप्त संस्था भारत स्काउट एंड गाइड की साहायता लि गई है। ताकि युवा शारीरिक और मानसिक रूप से समाज की बेहतर सेवा कर सकें।

जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने फिरदौस गार्डन में आयोजित जमीयत यूथ क्लब परिचय एवं प्रदर्शन कार्यक्रम में उक्त विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान हालात में देश का मुसलमान विशेषकर युवा डरा सहमा हुआ है। इसलिए जमीयत ने अपने पायलेट प्रोजेक्ट जमीयत यूथ क्लब के माध्यम से ऐसे प्रशिक्षित युवा तैयार करने का बीड़ा उठाया है। जो लोगों के सच्चे रक्षक होने के साथ ही जरूरत पडने पर अपनी रक्षा भी कर सकेंगे। उन्होने कहा की हमारा उद्देश्य ऐसे लोगों को तैयार करना है जो लोगों के रक्षक और सच्चे सेवक बन सकें और जरूरत पडने पर खुद की रक्षा भी करने में सक्षम हों। उन्होने जमीयत यूथ क्लब का परिचय कराते हुए कहा की हम पिछले पांच वर्षों से युवा में मानसिक व् शारीरक प्रशिक्षण पर काम कर रहे हैं. अपने पांच हजार छात्रों को प्रशिक्षण दिया है। इसके काम के लिए देश के मान्यता प्राप्त संस्थान भारत स्काउट एंड गाइड की मदद ली जा रही है। क्योंकि यह संस्था है मानव आधारित काम करती है और समन्वयक राष्ट्र विधि सीखलाती है, ताकि युवा शारीरिक और मानसिक रूप से समाज की बेहतर सेवा कर सकें। कहा कि जमीअत यूथ क्लब में स्कूल, कालज और मदरसे के बच्चे इसमें शामिल हो सकेंगे।

जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसुरपुरी ने कहा कि युवाओं का शारीरिक प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारे अकाबिर विशेषकर हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी अंत उम्र तक मगदर चलाते थे।

उन्होंने बताया कि हमारे विद्यार्थी काल में दारुल उलूम देवबंद में एक पहलवान रखा जाता था जो बच्चों को शारीरिक व्यायाम करवाया करता था। मौलाना ने कहा कि वर्तमान समय में देश के भीतर कुछ संगठन खुलेआम आपतिजनक हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, जिनका उद्देश्य दूसरों को डराना होता है। लेकिन जमीयत यूथ क्लब का उद्देश्य नकारात्मक नहीं रचनात्मक है। हमारे प्रशिक्षित युवा कानून के दायरे में रहते हुए अपने युवा शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। मास्टर हिदायतुल्लाह सिद्दीकी कहा कि भारत स्काउट एंड गाइड, जमिअत यूथ क्लब और जमिअत उलेमा हिंद मिलकर देश और राष्ट्र की सेवा करने का काम करेंगे।

अध्यक्षता मौलाना हसीब सिद्दीकी व संचालन मौलाना हकीमउद्दीन कासमी व नौशाद अली सिद्दीकी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान मौलाना अब्दुलाह पालनपूरी, मौलाना मोहम्मद याहया, मौलाना मोहम्मद आकिल, मौलान मेराजुद्दीन, मौलाना कलीमुल्लाह, मौलाना मुफ्ती यामीन, हाफिज उबैदुल्लाह, मौलान मुहम्मद मदनी, मौलाना जहूर, जहीन अहमद, मौलाना इब्राहीम कासमी, उमेर उस्मानी, चौधरी सादिक मुफ्ती जाकिर समेत काफी संख्या में लोग शामिल रहे। कार्यक्रम का समापन कारी उस्मान मंसूरपुरी की दुआ के साथ हुआ।

जमीयत उलेमा ए हिंद के बेनर तले आयोजित जमीयत यूथ क्लब के परिचय एवं प्रदर्शन कार्यक्रम में देश के तीन राज्यों गुजरात, मेवात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चयनित सौ छात्रों ने विभिन्न हैरत अंगेज कला का प्रदर्शन किया। जिन्हें मौलाना महमूद मदनी ने अपने हाथों से प्रतीक चिन्ह व प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान मौलाना मदनी ने घोषणा की कि अगले छह महीनों में दस हजार युवाओं को प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाएगा, जिनका एक सार्वजनिक प्रदर्शन फरवरी 2019 में जमीयत द्वारा आयोजित किया जाएगा।

جانبداری سے دور ✪ خبریں بھرپور

Roznama
MERA WATAN

روزنامہ

میرا وطن

www.merawatan.in

रोज़नामा मेरा वतन

مسلم نوجوانوں کو مایوسی کے سنگین بحران سے نکالا جائے

جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام ومظاہرہ کا انعقاد، مولانا محمود مدنی نے تعمیری قدم قرار دیا

وسیم عثمانی

آج یہاں دیوبند کے فردوس گارڈن میں جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام 'جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام ومظاہرہ منعقد ہوا'جس کی سرپرستی امیر الہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری اور صدارت مولانا حسیب صدیقی خازن جمعیۃ علماء ہند نے فرمائی۔اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا محمود مدنی نے نوجوانوں کو جوڑنے کے لیے اپنے پائیلیٹ پروجیکٹ 'جمعیۃ یوتھ کلب' کا تعارف اور خاکہ پیش کیا۔ دریں اثنا تین ریاستوں گجرات، میوات اور مغربی اترپردیش سے منتخب ۹۶ رطلبا نے اپنے فن کا بھی مظاہرہ کیا۔مولانا محمود مدنی نے اعلان کیا کہ موجودہ پلان کے مطابق اگلے چھ ماہ میں دس ہزار نوجوانوں کو تربیت دے کر تیار کیا جائے گا جو فروری 2019ء میں عوامی طور پر اپنی نمائش پیش کریں گے۔مولانا مدنی نے اس موقع پر یوتھ کلب کے مقاصد پر بھی روشنی ڈالی، انھوں نے کہا کہ یہ منفی نہیں بلکہ تعمیری قدم ہے، ہمارا مقصد ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو قوم کے سچے خادم بنیں اور ضرورت پڑنے پر خود کی حفاظت کے اہل ثابت ہوں۔مولانا مدنی نے کہا کہ آج امت سب سے زیادہ داخلی بحران کی شکار ہے، ملک کے موجودہ حالات میں جس طرح مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے، اس سے نوجوانوں میں مایوسی، مرعوبیت اور اپنی شناخت گم ہونے کا احساس پنپ رہا ہے۔اس لیے یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اس سنگین بحران سے نکالا جائے۔یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ امت کا ہر فرد ایک دوسرے کا معاون بن جائے اور مکان کی اینٹ کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہوجائے، وہ اتنا مضبوط ہوجائے کہ کوئی بھی خارجی بحران اس کا بال بیکانہ کرسکے۔انھوں نے کہا کہ عزت حاصل کرنے کا ایک کامیاب نسخہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا دل جیتیں، اپنے اندر سچائی، ایمانداری، غم گساری اور دوسروں کی مدد کا داعیہ پیدا کریں۔اگر کسی قوم میں یہ پیدا ہو جائے تو یہ اس کی بقا وسربلندی کی ضمانت ہے۔مولانا مدنی نے کہا کہ ہم پچھلے پانچ سالوں سے نوجوانوں کی ذہنی وجسمانی تربیت پر کام کررہے ہیں، ہم نے پانچ ہزار طلباء کی تربیت کرائی ہے۔اس کے لیے ملک کا تسلیم شدہ ادارہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کو منتخب کیا ہے، یہ ایسا سسٹم ہے جو انسانی بنیاد پر کام کرتا ہے، یہ کوآرڈی نیشن کا طریقہ سکھلاتا ہے، تاکہ جسمانی اور ذہنی طور سے بہتر طریقے سے خدمت انجام دینے کا ہنر پیدا کیا جائے۔مولانا مدنی نے جمعیۃ علماء ہند کے ذمہ داروں سے کہا کہ بلاتردد اس کام میں لگ جائیں اور ہمارے پروجیکٹ کو کامیاب بنائیں۔انھوں نے جمعیۃ یوتھ کلب کے بارے میں بتایا کہ اسکول اور مدرسے کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شامل ہوسکیں گے، تاہم اسکول اور مدرسے کے بچے ڈائریکٹ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ سے وابستہ ہوں گے اور اٹھارہ مہینہ میں تین درجوں کی تربیت کے بعد 'خادم ملت' میں شامل ہونے کا حق دار ہوں گے اور جو لوگ اسکول اور مدرسے میں نہیں ہیں ان کو ہم ڈائریکٹ جمعیۃ یوتھ کلب میں شامل کریں گے۔اس موقع پر مولانا عبدالقدوس پالن پوری گجرات، مولانا محمد یحییٰ کریمی میوات اور مولانا محمد عاقل کیرانہ نے بھی اپنی کارگزاری پیش کی۔ان کے علاوہ جو شخصیات اسٹیج پر جلوہ افروز تھیں ان میں مولانا معزالدین احمد، مولانا کلیم اللہ فیض آبادی، مولانا مفتی بنیامین، مولانا عاقل گڑھی دولت، حافظ عبیداللہ بنارس وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔مولانا حسیب صدیقی نے اپنے صدارتی خطاب میں تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔انھوں نے بالخصوص پروگرام کے کامیاب انتظام کے لیے مولانا سید محمد مدنی، مولانا ظہور احمد قاسمی، سید ذہین احمد مدنی اور مولانا ابراہیم قاسمی ودیگر حضرات کو مبارکباد پیش کی۔اس موقع پر گجرات، میوات اور مغربی اترپردیش سے جمعیۃ یوتھ کلب اور جمعیۃ علماء کے مقامی وریاستی ذمہ داران بھی موجود تھے۔آج کے پروگرام میں قاری احمد عبداللہ نے ترانہ پیش کیا، نظامت کے فرائض مولانا حکیم الدین قاسمی اور نوشاد علی صدیقی نے مشترکہ طور سے انجام دیے، مجلس کا آغاز قاری محمد ایوب کی تلاوت سے ہوا۔مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری کی دعاء پر پروگرام اختتام پذیر ہوا۔

e-paper www.avadhnama.com
Postal Registration No. GPOLW/MP-50/2012-14 • RNI No. UPURD/2001/6110
روزنامہ اودھ نامہ
avadhnama
۲۵ رجولائی ۲۰۱۸ء مطابق ۱۱/ ذیقعدہ ۱۴۳۹ھ

آج امت مسلمہ سب سے زیادہ داخلی بحران کا شکار ہے: مولانا محمود مدنی

دیوبند 24جولائی (پی این ایس) دیوبند کے فردوس گارڈن میں جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام و مظاہرہ منعقد ہوا جس کی سرپرستی امیر الہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری اور صدارت مولانا حبیب صدیقی خازن جمعیۃ علماء ہند نے فرمائی۔ اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا محمود مدنی نے نوجوانوں کو جوڑنے کے لیے اپنے پائیلیٹ پروجیکٹ 'جمعیۃ یوتھ کلب' کا تعارف اور خاکہ پیش کیا۔ دریں اثنا تین ریاستوں گجرات، میوات اور مغربی اتر پردیش سے منتخب ۹۶ طلبا نے اپنے فن کا بھی مظاہرہ کیا۔ مولانا محمود مدنی نے اعلان کیا کہ موجودہ پلان کے مطابق اگلے چھ ماہ میں دس ہزار نوجوانوں کو تربیت دے کر تیار کیا جائے گا جو فروری ۲۰۱۹ میں عوامی طور پر اپنی نمائش پیش کریں گے۔

مولانا مدنی نے اس موقع پر یوتھ کلب کے مقاصد پر بھی روشنی ڈالی، انھوں نے کہا کہ یہ منفی نہیں بلکہ تعمیری قدم ہے، ہمارا مقصد ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو قوم کے سچے خادم بنیں اور ضرورت پڑنے پر خود کی حفاظت کے اہل ثابت ہوں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ آج امت سب سے زیادہ داخلی بحران کی شکار ہے، ملک کے موجودہ حالات میں جس طرح مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے، اس سے نوجوانوں میں مایوسی، مرعوبیت اور اپنی شناخت گم ہونے کا احساس پنپ رہا ہے۔ اس لیے یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اس سنگین بحران سے نکالا جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ امت کا ہر فرد ایک دوسرے کا معاون بن جائے اور مکان کی اینٹ کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہوجائے، وہ اتنا مضبوط ہوجائے کہ کوئی بھی خارجی بحران اس کا بال بیکا نہ کرسکے۔ انھوں نے کہا کہ عزت حاصل کرنے کا ایک کامیاب نسخہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا دل جیتیں، اپنے اندر سچائی، ایمانداری، غم گساری اور دوسروں کی مدد کا داعیہ پیدا کریں۔ اگر کسی قوم میں یہ پیدا ہوجائے تو یہ اس کی بقا و سربلندی کی ضمانت ہے۔

مولانا مدنی نے کہا کہ ہم پچھلے پانچ سالوں سے نوجوانوں کی ذہنی وجسمانی تربیت پر کام کررہے ہیں، ہم نے پانچ ہزار طلباء کی تربیت کرائی ہے۔ اس کے لیے ملک کا تسلیم شدہ ادارہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کو منتخب کیا ہے، یہ ایسا سسٹم ہے جو انسانی بنیاد پر کام کرتا ہے، یہ کوآرڈی نیشن کا طریقہ سکھلاتا ہے، تاکہ جسمانی اور ذہنی طور سے بہتر طریقے سے خدمت انجام دینے کا ہنر پیدا کیا جائے۔

مولانا مدنی نے جمعیۃ علماء ہند کے ذمہ داروں سے کہا کہ بلا تردد اس کام میں لگ جائیں اور ہمارے پروجیکٹ کو کامیاب بنائیں۔ انھوں نے جمعیۃ یوتھ کلب کے بارے میں بتایا کہ اسکول اور مدرسے کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شامل ہوسکیں گے، تاہم اسکول اور مدرسے کے بچے ڈائریکٹ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ سے وابستہ ہوں گے اور اٹھارہ مہینہ میں تین درجوں کی تربیت کے بعد 'خادم ملت' میں شامل ہونے کا حق دار ہوں گے اور جو لوگ اسکول اور مدرسے میں نہیں ہیں ان کو ہم ڈائریکٹ جمعیۃ یوتھ کلب میں شامل کریں گے۔

اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے صدر امیر الہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری نے کہا کہ نوجوانوں کی جسمانی تربیت بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالے نے جہاں حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بنانے کا ذکر کیا ہے، وہیں جسم اور علم کو فضیلت اور بادشاہت کا سبب قرار دیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہمارے اکابر بالخصوص حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی آخر عمر تک مگدر چلاتے تھے، ہمارے زمانہ طالب علمی میں دارالعلوم دیوبند میں ایک پہلوان رکھا جاتا تھا جو لڑکوں کو جسمانی ورزش کرواتا تھا۔ انھوں نے کہا کہ آج کے حالات میں کچھ جماعتیں کھلے عام آتشیں اسلحوں کی نمائش کرتی ہیں، جن کا مقصد دوسروں کو مرعوب کرنا ہوتا ہے۔ ہم بھی ملک کے قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنے نوجوانوں کی لیاقت کا کھلے عام مظاہرہ کریں گے؟

ازیں قبل اپنے افتتاحی خطاب میں مولانا حکیم الدین قاسمی سکریٹری جمعیۃ علماء ہند نے جمعیۃ علماء ہند کے دستور وتاریخ کی روشنی میں اس مشن کا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ حضرت ناظم عمومی جمعیۃ علماء ہند کا پائیلٹ پروجیکٹ ہے۔ حضرت کی شب وروز محنت و توجہ کی بدولت یہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔

ہدایت اللہ صدیقی سابق افسر بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ مدھیہ پردیش نے اسکاؤٹ اور جمعیۃ یوتھ کلب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ، جمعیۃ یوتھ کلب اور جمعیۃ علماء ہند مل کر ملک اور قوم کی خدمت کریں گے۔ ماسٹر نوشاد علی نے اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے تین بنیادی کام (۱) ڈیوٹی ٹو گوڈ (۲) ڈیوٹی ٹو ادرس (۳) ڈیوٹی ٹو سیلف پر روشنی ڈالی۔ بچوں کا فن دیکھنے کے بعد مولانا مدنی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو شیلڈ اور سرٹیفیکٹ سے نوازا۔

اس موقع پر مولانا عبدالقدوس پالن پوری گجرات، مولانا محمد یحییٰ کریمی میوات اور مولانا محمد عاقل کیرانہ نے بھی اپنی کارگزاری پیش کی۔ ان کے علاوہ جو شخصیات اسٹیج پر جلوہ افروز تھیں ان میں مولانا معز الدین احمد، مولانا کلیم اللہ فیض آبادی، مولانا مفتی بنیامین، مولانا عاقل گڑھی دولت، حافظ عبید اللہ بنارس وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ مولانا حبیب صدیقی نے اپنے صدارتی خطاب میں تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ انھوں نے بالخصوص پروگرام کے کامیاب انتظام کے لیے مولانا سید محمد مدنی، مولانا ظہور احمد قاسمی، سید ذہین احمد مدنی اور مولانا ابراہیم قاسمی و دیگر حضرات کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر گجرات، میوات اور مغربی اتر پردیش سے جمعیۃ یوتھ کلب اور جمعیۃ علماء کے مقامی وریاستی ذمہ داران بھی موجود تھے۔ آج کے پروگرام میں قاری احمد عبداللہ نے ترانہ پیش کیا، نظامت کے فرائض مولانا حکیم الدین قاسمی اور نوشاد علی صدیقی نے مشترکہ طور سے انجام دیے، مجلس کا آغاز قاری محمد ایوب کی تلاوت سے ہوا۔ مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری کی دعاء پر پروگرام اختتام پذیر ہوا۔

روزنامہ سیاسی تقدیر دہلی
DAILY SIYASI TAQDEER DELHI

دیوبند کے فردوس گارڈن میں جمعیۃ علماء ہند کے زیراہتمام پروگرام کا انعقاد

جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا محمود مدنی نے نوجوانوں کو جوڑنے کے لیے اپنے پائیلیٹ پروجیکٹ 'جمعیۃ یوتھ کلب' کا تعارف اور خاکہ پیش کیا

دیو بند ۔۲۴؍جولائی (پریس ریلیز) آج یہاں دیو بند کے فردوس گارڈن میں جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام 'جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام و مظاہرہ منعقد ہوا' جس کی سرپرستی امیر الہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری اور صدارت مولانا حسیب صدیقی خازن جمعیۃ علماء ہند نے فرمائی۔اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا محمود مدنی نے نوجوانوں کو جوڑنے کے لیے اپنے پائیلیٹ پروجیکٹ 'جمعیۃ یوتھ کلب' کا تعارف اور خاکہ پیش کیا۔دریں اثنا تین ریاستوں گجرات، میوات اور مغربی اترپردیش سے منتخب ۹۶؍طلبا نے اپنے فن کا بھی مظاہرہ کیا۔مولانا محمود مدنی نے اعلان کیا کہ موجودہ پلان کے مطابق اگلے چھ ماہ میں دس ہزار نوجوانوں کو تربیت دے کر تیار کیا جائے گا جو فروری ۲۰۱۹ء میں عوامی طور پر اپنی نمائش پیش کریں گے ۔مولانا مدنی نے اس موقع پر یوتھ کلب کے مقاصد پر بھی روشنی ڈالی ،انھوں نے کہا کہ یہ منفی نہیں بلکہ تعمیری قدم ہے،ہمارا مقصد ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو قوم کے سچے خادم بنیں اور ضرورت پڑنے پر خود کی حفاظت کے اہل ثابت ہوں۔مولانا مدنی نے کہا کہ آج امت سب سے زیادہ داخلی بحران کی شکار ہے،ملک کے موجودہ حالات میں جس طرح مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے،اس سے نوجوانوں میں مایوسی ، مرعوبیت اور اپنی شناخت گم ہونے کا احساس پنپ رہا ہے۔اس لیے یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اس سنگین بحران سے نکالا جائے ۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ امت کا ہر فرد ایک دوسرے کا معاون بن جائے اور مکان کی اینٹ کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہوجائے ،وہ اتنا مضبوط ہوجائے کہ کوئی بھی خارجی بحران اس کا بال بیکانہ کرسکے۔انھوں نے کہا کہ عزت حاصل کرنے کا ایک کامیاب نسخہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا دل جیتیں، اپنے اندر سچائی ، ایمانداری ، غم گساری اور دوسروں کی مدد کا داعیہ پیدا کریں ۔اگر کسی قوم میں یہ پیدا ہوجائے تو یہ اس کی بقاو سربلندی کی ضمانت ہے۔مولانا مدنی نے کہا کہ ہم پچھلے پانچ سالوں سے نوجوانوں کی ذہنی وجسمانی تربیت پر کام کررہے ہیں، ہم نے پانچ ہزار طلباء کی تربیت کرائی ہے۔اس کے لیے ملک کا تسلیم شدہ ادارہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کو منتخب کیا ہے ، یہ ایسا سسٹم ہے جو انسانی بنیاد پر کام کرتا ہے، یہ کوآرڈی نیشن کا طریقہ سکھلاتا ہے ، تاکہ جسمانی اور ذہنی طور سے بہتر طریقے سے خدمت انجام دینے کا ہنر پیدا کیا جائے ۔ مولانا مدنی نے جمعیۃ علماء ہند کے ذمہ داروں سے کہا کہ بلاتردد اس کام میں لگ جائیں اور ہمارے پروجیکٹ کو کامیاب بنائیں ۔انھوں نے جمعیۃ یوتھ کلب کے بارے میں بتایا کہ اسکول اور مدرسے کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شامل ہوسکیں گے، تاہم اسکول اور مدرسے کے بچے ڈائریکٹ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ سے وابستہ ہوں گے اور اٹھارہ مہینہ میں تین درجوں کی تربیت کے بعد 'خادم ملت' میں شامل ہونے کا حق دار ہوں گے اور جو لوگ اسکول اور مدرسے میں نہیں ہیں ان کو ہم ڈائریکٹ جمعیۃ یوتھ کلب میں شامل کریں گے۔ اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے صدر امیر الہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری نے کہا کہ نوجوانوں کی جسمانی تربیت بہت ضروری ہے۔قرآن مجید میں اللہ تعالے نے جہاں حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بنانے کا ذکر کیا ہے، وہیں جسم اور علم کو فضیلت اور بادشاہت کا سبب قرار دیا ہے ۔انھوں نے کہا کہ ہمارے اکابر بالخصوص حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ آخر عمر تک مگدر چلاتے تھے ، ہمارے زمانہ طالب علمی میں دارالعلوم دیوبند میں ایک پہلوان رکھا جاتا تھا جو لڑکوں کو جسمانی ورزش کرواتا تھا ۔انھوں نے کہا کہ آج کے حالات میں کچھ جماعتیں کھلے عام آتشیں اسلحوں کی نمائش کرتی ہیں ، جن کا مقصد دوسروں کو مرعوب کرنا ہوتا ہے۔ ہم بھی ملک کے قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنے نوجوانوں کی لیاقت کا کھلے عام مظاہرہ کریں گے ؟ازیں قبل اپنے افتتاحی خطاب میں مولانا حکیم الدین قاسمی سکریٹری جمعیۃ علماء ہند نے جمعیۃ علماء ہند کے دستور و تاریخ کی روشنی میں اس مشن کا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ حضرت ناظم عمومی جمعیۃ علماء ہند کا پائیلٹ پروجیکٹ ہے۔حضرت کی شب وروز محنت وتوجہ کی بدولت یہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے ۔ہدایت اللہ صدیقی سابق افسر بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ مدھیہ پردیش نے اسکاؤٹ اور جمعیۃ یوتھ کلب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ، جمعیۃ یوتھ کلب اور جمعیۃ علماء ہند مل کر ملک اور قوم کی خدمت کریں گے ۔ماسٹر نوشاد علی نے اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے تین بنیادی کام (۱) ڈیوٹی ٹو گوڈ (۲) ڈیوٹی ٹو ادرس (۳) ڈیوٹی ٹو سیلف پر روشنی ڈالی۔ بچوں کا فن دیکھنے کے بعد مولانا مدنی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو شیلڈ اور سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ اس موقع پر مولانا عبدالقدوس پالن پوری گجرات، مولانا محمد یحیی کریمی میوات اور مولانا محمد عاقل کیرانہ نے بھی اپنی کارگزاری پیش کی۔ان کے علاوہ جو شخصیات اسٹیج پر جلوہ افروز تھیں ان میں مولانا معزالدین احمد، مولانا کلیم اللہ فیض آبادی ،مولانا مفتی بنیامین، مولانا عاقل گڑھی دولت، حافظ عبیداللہ بنارس وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ مولانا حسیب صدیقی نے اپنے صدارتی خطاب میں تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔

انھوں نے بالخصوص پروگرام کے کامیاب انتظام کے لیے مولانا سید محمد مدنی، مولانا ظہور احمد قاسمی ،سید ذہین احمد مدنی اور مولانا ابراہیم قاسمی و دیگر حضرات کو مبارک باد پیش کی۔اس موقع پر گجرات، میوات اور مغربی اترپردیش سے جمعیۃ یوتھ کلب اور جمعیۃ علماء کے مقامی و ریاستی ذمہ داران بھی موجود تھے۔آج کے پروگرام میں قاری احمد عبداللہ نے ترانہ پیش کیا ،نظامت کے فرائض مولانا حکیم الدین قاسمی اور نوشاد علی صدیقی نے مشترکہ طور سے انجام دیے، مجلس کا آغاز کا قاری محمد ایوب کی تلاوت سے ہوا۔مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری کی دعاء پر پروگرام اختتام پذیر ہوا

بہار میں بڑی مقدار شراب برآمد

پٹنہ،24جولائی (یواین آئی)

بہار میں ویشالی اور گیا ضلع سے پولیس نے بڑی مقدار میں شراب کے ساتھ ایک اسمگلر کو گرفتار کیا ہے۔حاجی پور سے موصولہ اطلاع کے مطابق ویشالی ضلع کے ودوپور تھانہ کے کنچن پورہ چوک کے نزدیک کل دیر رات ٹرک پر لدی ہریانہ میں بنی 254 کارٹن انگریزی شراب برآمد کی گئی۔ برآمد شراب کی قیمت تقریباً 25لاکھ روپے ہے۔موقع سے شراب اسمگلر محمد سلمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔اسی طرح ویشالی تھانہ کے چکرام داس گاوں سے کل دیر رات منی ٹرک پر لدی ہریانہ میں بنی 100 کارٹن انگریزی شراب برآمد کی گئی ہے ۔برآمد شراب کی قیمت تقریباً دس لاکھ روپے ہے۔ پولیس کو دیکھتے ہی شراب اسمگلر موقع سے فرار ہوگیا۔گیا سے موصولہ رپورٹ کی بنیاد پر گیا جنکشن کے پلیٹ فارم نمبر چار پر 12366 جن شتابدی ایکسپریس ٹرین میں چھاپہ مار کر پولیس نے آج 60بوتل جھارکھنڈ میں بنی کین بیئر برآمد کی ہیں۔

موقع سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جاسکا ہے۔وہیں 13307 کسان ایکسپریس میں چھاپہ مار کر پولیس نے دیسی شراب کے 200پاوچ برآمد کیے ہیں۔اس معاملہ میں متھلیش سنگھ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ متھلیش نوادا ضلع کا رہنے والا ہے۔پولیس اس سے پوچھ گچھ کررہی ہے۔

ٹرین سے گر کر چھ افراد ہلاک

چنئی، 24جولائی (یواین آئی)

تامل ناڈو میں سینٹ تھامس ماؤنٹ ریلوے سٹیشن کے قریب (الیکٹرک ملٹی پل یونٹ) ای ایم یو ٹرین سے گر کر چھ افراد ہلاک اور سات دیگر زخمی ہوگئے ۔پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ منگل کی صبح نو بجے چنئی بیچ سے ترومالپر جارہی ای ایم یو ٹرین سے گر جانے سے چار افراد ہلاک ہوگئے ۔ اس حادثے میں زخمی دو لوگوں کی پیر کی رات موت ہوگئی۔ ٹرین مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔

تلنگانہ اور اے پی کے چند آبی پروجیکٹس میں پانی کا بہاؤ

حیدرآباد، 24؍جولائی (یواین آئی) دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور اے پی کے چند آبی پروجیکٹس میں پانی کا بہاو دیکھا جارہا ہے۔کرناٹک اور مہاراشٹرا میں مختلف پروجیکٹس کے لبریز ہونے کے سبب پانی چھوڑا جارہا ہے جس کی وجہ دونوں تلگو ریاستوں میں بھی پانی کا زبردست بہاو دیکھا جارہا ہے ۔ ضلع جوگولامبا گدوال میں الماٹی اور نارائن پور ڈیمس سے پانی کے اخراج کے سبب تلنگانہ کے جوگولامبا گدوال کے جوراله پروجیکٹ میں پانی کا خاطر خواہ بہاو دیکھا گیا جس کے بعد جوراله پروجیکٹ سے جمعہ سے مسلسل پانی سری سیلم اور کوئل ساگر کے لئے پانی چھوڑا جارہا ہے۔جوراله پروجیکٹ سے پانی چھوڑنے کے بعد ہائیڈل پروجیکٹ میں بجلی کی تیاری کا کام بھی کیا جارہا ہے۔دوسری طرف مشرقی کرناٹک کے الماٹی ڈیم میں پانی کا زائد بہاو دیکھا گیا۔اس ڈیم کی مکمل گنجائش 129.7ٹی ایم سی ہے۔اس کی موجودہ سطح آب 113ٹی ایم سی دیکھی گئی۔اس میں 1,69,145 کیوزک پانی کا بہاو درج کیا گیا جس کے بعد اس کے دروازے کھولتے ہوئے 1,78,196 پانی کو چھوڑا گیا۔مہاراشٹر نارائن پور ڈیم میں 1,84,500 کیوزک پانی کا بہاو درج کیا گیا جس کے بعد اس کے دروازے کھولتے ہوئے 1,77,818 کیوزک پانی چھوڑا گیا۔نارائن پور ڈیم کی مکمل سطح آب 37.6ٹی ایم سی ہے ۔اس کی موجودہ سطح آب 32.8ٹی ایم سی درج کی گئی ہے۔ سری سیلم پروجیکٹ میں بھی پانی کا زائد بہاو دیکھا جارہا ہے ۔اس کی مکمل سطح آب 885فیٹ ہے ۔اس کی موجودہ سطح آب 853.6فیٹ درج کی گئی ۔اس میں 1,83,826 کیوزک پانی کا بہاو دیکھا گیا جس کے بعد اس سے 4650 کیوزک پانی کو چھوڑا گیا۔

بیاد: محمد نذیر مرحوم
ممبئی اردو نیوز
اردو پڑھئے، لکھئے اور بولئے
ممبئی اردو نیوز
کا مطالعہ اپنی عادت بنائیے
Tel. 022-2305 4433 2309 5544
Website : www.mumbaiurdunews.com
R.N.I. No.MAHURD / 2010 / 35278
www.mumbaiurdunews.com
Postal Regn. No. MCW/338/2017-19 Vol. No. 6 Issue No.205 Wednesday 25th July 2018 Price: ₹5/- 12 Pages
Mumbai Urdu News
جلد نمبر ۶ شمارہ نمبر ۲۰۵ بدھ ۲۵ر جولائی ۲۰۱۸ء ۱۱ ذی القعدہ ۱۴۳۹ھ قیمت:۵ روپے صفحات ۱۲

ہم قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنے نوجوانوں کی لیاقت کا کھلے عام مظاہرہ کریں گے؟

ہمارا مقصد ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو قوم کے سچے خادم بنیں، اگلے چھ ماہ میں دس ہزار نوجوانوں کو تربیت دے کر تیار کیا جائے گا

جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام 'جمعیۃ یوتھ کلب' تعارفی پروگرام میں مولانا سید محمود مدنی کا اظہار خیال، طلباء نے اپنے فن کا شاندار مظاہرہ کیا

دیوبند۔ ۲۴ر جولائی : (رضوان سلمانی) آج یہاں دیوبند کے فردوس گارڈن میں جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام 'جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام ومظاہرہ منعقد ہوا 'جس کی سرپرستی امیر الہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری اور صدارت مولانا حسیب صدیقی خازن جمعیۃ علماء ہند نے فرمائی۔اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا محمود مدنی نے نوجوانوں کو جوڑنے کے لیے اپنے پائیلیٹ پروجیکٹ 'جمعیۃ یوتھ کلب' کا تعارف اور خاکہ پیش کیا۔ دریں اثنا تین ریاستوں گجرات، میوات اور مغربی اتر پردیش سے منتخب ۹۶ر طلبا نے اپنے فن کا بھی مظاہرہ کیا۔مولانا محمود مدنی نے اعلان کیا کہ موجودہ پلان کے مطابق اگلے چھ ماہ میں دس ہزار نوجوانوں کو تربیت دے کر تیار کیا جائے گا جو فروری ۲۰۱۹ء میں عوامی طور پر اپنی نمائش پیش کریں گے۔مولانا مدنی نے اس موقع پر یوتھ کلب کے مقاصد پر بھی روشنی ڈالی، انھوں نے کہا کہ یہ منفی نہیں بلکہ تعمیری قدم ہے، ہمارا مقصد ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو قوم کے سچے خادم بنیں اور ضرورت پڑنے پر خود کی حفاظت کے اہل ثابت ہوں۔مولانا مدنی نے کہا کہ آج امت سب سے زیادہ داخلی بحران کی شکار ہے، ملک کے موجودہ حالات میں جس طرح مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے، اس سے نوجوانوں میں مایوسی، مرعوبیت اور اپنی شناخت گم ہونے کا احساس پنپ رہا ہے۔اس لیے یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اس سنگین بحران سے نکالا جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ امت کا ہر فرد ایک دوسرے کا معاون بن جائے اور مکان کی اینٹ کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہوجائے، وہ اتنا مضبوط ہوجائے کہ کوئی بھی خارجی بحران اس کا بال بیکا نہ کرسکے۔انھوں نے کہا کہ عزت حاصل کرنے کا ایک کامیاب نسخہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا دل جیتیں، اپنے اندر سچائی، ایمانداری، غم گساری اور دوسروں کی مدد کا داعیہ پیدا کریں۔اگر کسی قوم میں یہ پیدا ہو جائے تو یہ اس کی بقاو سربلندی کی ضمانت ہے۔مولانا مدنی نے کہا کہ ہم پچھلے پانچ سالوں سے نوجوانوں کی ذہنی وجسمانی تربیت پر کام کررہے ہیں، ہم نے پانچ ہزار طلباء کی تربیت کرائی ہے۔اس کے لیے ملک کا تسلیم شدہ ادارہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کو منتخب کیا ہے، یہ ایسا سسٹم ہے جو انسانی بنیاد پر کام کرتا ہے، یہ کوآرڈی نیشن کا طریقہ سکھلاتا ہے، تاکہ جسمانی اور ذہنی طور سے بہتر طریقے سے خدمت انجام دینے کا ہنر پیدا کیا جائے۔ مولانا مدنی نے جمعیۃ علماء ہند کے ذمہ داروں سے کہا کہ بلا تردد اس کام میں لگ جائیں اور ہمارے پروجیکٹ کو کامیاب بنائیں۔انھوں نے جمعیۃ یوتھ کلب کے بارے میں بتایا کہ اسکول اور مدرسے کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شامل ہوسکیں گے، تاہم اسکول اور مدرسے کے بچے ڈائریکٹ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ سے وابستہ ہوں گے اور اٹھارہ مہینہ میں تین درجوں کی تربیت کے بعد 'خادم ملت' میں شامل ہونے کا حق دار ہوں گے اور جو لوگ اسکول اور مدرسے میں نہیں ہیں ان کو ہم ڈائریکٹ جمعیۃ یوتھ کلب میں شامل کریں گے۔ اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے صدر امیر الہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری نے کہا کہ نوجوانوں کی جسمانی تربیت بہت ضروری ہے۔قرآن مجید میں اللہ تعالے نے جہاں حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بنانے کا ذکر کیا ہے، وہیں جسم اور علم کو فضیلت اور بادشاہت کا سبب قرار دیا ہے۔انھوں نے کہا کہ ہمارے اکابر بالخصوص حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ آخر عمر تک مگدر چلاتے تھے، ہمارے زمانہ طالب علمی میں دارالعلوم دیوبند میں ایک پہلوان رکھا جاتا تھا جو لڑکوں کو جسمانی ورزش کرواتا تھا۔انھوں نے کہا کہ آج کے حالات میں کچھ جماعتیں کھلے عام آتشیں اسلحوں کی نمائش کرتی ہیں، جن کا مقصد دوسروں کو مرعوب کرنا ہوتا ہے۔ہم بھی ملک کے قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنے نوجوانوں کی لیاقت کا کھلے عام مظاہرہ کریں گے؟ازیں قبل اپنے افتتاحی خطاب میں مولانا حکیم الدین قاسمی سکریٹری جمعیۃ علماء ہند نے جمعیۃ علماء ہند کے دستور وتاریخ کی روشنی میں اس مشن کا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ حضرت ناظم عمومی جمعیۃ علماء ہند کا پائیلٹ پروجیکٹ ہے۔حضرت کی شب وروز محنت وتوجہ کی بدولت یہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ہدایت اللہ صدیقی سابق افسر بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ مدھیہ پردیش نے اسکاؤٹ اور جمعیۃ یوتھ کلب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ، جمعیۃ یوتھ کلب اور جمعیۃ علماء ہند مل کر ملک اور قوم کی خدمت کریں گے۔ماسٹر نوشاد علی نے اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے تین بنیادی کام (۱) ڈیوٹی ٹو گوڈ (۲) ڈیوٹی ٹو ادرس (۳) ڈیوٹی ٹو سیلف پر روشنی ڈالی۔ بچوں کا فن دیکھنے کے بعد مولانا مدنی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو شیلڈ اور سرٹیفکیٹ سے نوازا۔اس موقع پر مولانا عبدالقدوس پالن پوری گجرات، مولانا محمد یحیی کریمی میوات اور مولانا محمد عاقل کیرانہ نے بھی اپنی کارگزاری پیش کی۔ان کے علاوہ جو شخصیات اسٹیج پر جلوہ افروز تھیں ان میں مولانا معزالدین احمد، مولانا کلیم اللہ فیض آبادی، مولانا مفتی بنیامین، مولانا عاقل گڑھی دولت، حافظ عبیداللہ بنارس وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔مولانا حسیب صدیقی نے اپنے صدارتی خطاب میں تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔انھوں نے بالخصوص پروگرام کے کامیاب انتظام کے لیے مولانا سید محمد مدنی، مولانا ظہور احمد قاسمی، سید ذہین احمد مدنی اور مولانا ابراہیم قاسمی ودیگر حضرات کو مبارک باد پیش کی۔اس موقع پر گجرات، میوات اور مغربی اتر پردیش سے جمعیۃ یوتھ کلب اور جمعیۃ علماء کے مقامی وریاستی ذمہ داران بھی موجود تھے۔آج کے پروگرام میں قاری احمد عبداللہ نے ترانہ پیش کیا، نظامت کے فرائض مولانا حکیم الدین قاسمی اور نوشاد علی صدیقی نے مشترکہ طور سے انجام دیے، مجلس کا آغاز کا قاری محمد ایوب کی تلاوت سے ہوا۔مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری کی دعاء پر پروگرام اختتام پذیر ہوا۔

قیمت ₹3.00 | 08 PAGES | VOL : II ISSUE :14, WEDNESDAY, JULY 25, 2018 MUMBAI
قیمت: ۳ روپے ۸ صفحات ممبئی بدھ ۲۵ جولائی ۲۰۱۸ء ۱۱ ذی القعدہ ۱۴۳۹ھ
epaper.humaapdaily.com
ہم آپ
HUM AAP
جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود (اقبال)

جمعیۃ یوتھ کلب منفی نہیں بلکہ تعمیری قدم۔ مولانا محمود مدنی

دیوبند: جمعے ? علما ہند کے جنرل سکریٹری مولانا محمود مدنی نے یوتھ کلب کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ منفی نہیں بلکہ تعمیری قدم ہے، ہمارا مقصد ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو قوم کے سچے خادم بنیں اور ضرورت پڑنے پر خود کی حفاظت کے اہل ثابت ہوں۔ یہ بات انہوں نے آج یہاں جمعی ? علماء ہند کے زیر اہتمام جمعے ? یوتھ کلب تعارفی پروگرام و مظاہر ہمیں کہی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ آج امت سب سے زیادہ داخلی بحران کی شکار ہے، ملک کے موجودہ حالات میں جس طرح مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے، اس سے نوجوانوں میں مایوسی، مرعوبیت اور اپنی شناخت گم ہونے کا احساس پنپ رہا ہے۔ اس لیے یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اس سنگین بحران سے نکالا جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ امت کا ہر فرد ایک دوسرے کا معاون بن جائے اور مکان کی اینٹ کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہوجائے، وہ اتنا مضبوط ہوجائے کہ کوئی بھی خارجی بحران اس کا بال بیکا نہ مولانا مدنی نے کہا کہ ہم

پچھلے پانچ سالوں سے نوجوانوں کی ذہنی وجسمانی تربیت پر کام کررہے ہیں، ہم نے پانچ ہزار طلباء کی تربیت کرائی ہے۔ اس کے لیے ملک کا تسلیم شدہ ادارہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کو منتخب کیا ہے، یہ ایسا سسٹم ہے جو انسانی بنیاد پر کام کرتا ہے، یہ کوآرڈی نیشن کا طریقہ سکھلاتا ہے، تاکہ جسمانی اور ذہنی طور سے بہتر طریقے سے خدمت انجام دینے کا ہنر پیدا کیا جائے۔ مولانا مدنی نے جمعی ? علماء ہند کے ذمہ داروں سے کہا کہ بلا تردد اس کام میں لگ جائیں اور ہمارے پروجیکٹ کو کامیاب بنائیں۔ انھوں نے جمعی ? یوتھ کلب کے بارے میں بتایا کہ اسکول اور مدرسے کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شامل ہوسکیں گے، تاہم اسکول اور مدرسے کے بچے ڈائریکٹ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ سے وابستہ ہوں گے اور اٹھارہ مہینہ میں تین درجوں کی تربیت کے بعد خادم ملت' میں شامل ہونے کا حق دار ہوں گے اور جو لوگ اسکول اور مدرسے میں نہیں ہیں ان کو ہم ڈائریکٹ جمعے ? یوتھ کلب میں شامل کریں گے۔ اس موقع پر جمعی ? علماء ہند کے صدر امیر الہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری نے کہا کہ نوجوانوں کی جسمانی تربیت بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالے نے جہاں حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بنانے کا ذکر کیا ہے، وہیں جسم اور علم کو فضیلت اور بادشاہت کا سبب قرار دیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہمارے اکابر بالخصوص حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ? آخر عمر تک مگدر چلاتے تھے، ہمارے زمانہ طالب علمی میں دارالعلوم دیوبند میں ایک پہلوان رکھا جاتا تھا جو لڑکوں کو جسمانی ورزش کرواتا تھا۔ انھوں نے کہا کہ آج کے حالات میں کچھ جماعتیں کھلے عام آتشیں اسلحوں کی نمائش کرتی ہیں، جن کا مقصد دوسروں کو مرعوب کرنا ہوتا ہے۔ ہم بھی ملک کے قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنے نوجوانوں کی لیاقت کا کھلے عام مظاہرہ کریں گے؟ ازیں قبل اپنے افتتاحی خطاب میں مولانا حکیم الدین قاسمی سکریٹری جمعے ? علما ہند نے جمعے ? علماء ہند کے دستور و تاریخ کی روشنی میں اس مشن کا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ حضرت ناظم عمومی جمعے ? علماء ہند کا پائیلٹ پروجیکٹ ہے۔ ہدایت اللہ صدیقی سابق افسر بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ مدھیہ پردیش نے اسکاؤٹ اور جمعی ? یوتھ کلب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ، جمعے ? یوتھ کلب اور جمعے ? علماء ہند مل کر ملک اور قوم کی خدمت کریں گے۔ ماسٹر نوشاد علی نے اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے تین بنیادی کام (۱) ڈیوٹی ٹو گوڈ (۲) ڈیوٹی ٹو ادرس (۳) ڈیوٹی ٹو سیلف پر روشنی ڈالی۔ بچوں کا فن دیکھنے کے بعد مولانا مدنی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو شیلڈ اور سرٹیفیکٹ سے نوازا۔

عام آدمی کا اخبار

زمینی سچ

Urdu Daily ZAMINI SACH Lucknow

...ئی ۲۰۱۸ء، ۱۱ ذی القعدہ، ۱۴۳۹ھ، جلد نمبر ۵، شمارہ ۱۳۸ | R.N.I.No.UPURD/2014/55627 | zaminisach.com | ... 138

...شزدگی سے تباہی، 20 ہلاک

...جنگلات میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں حکام کے ...یں۔ یونان میں حکومت کا کہنا ہے کہ جنگلات میں ...گی ہے جس کے بعد حکام نے بین الاقوامی امداد ...ڑوں کارکن جنگل میں لگنے والی اس آگ پر قابو ...ہتھنز کے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے ...مطابق پیر کو بھڑکنے والی اس آگ کے نتیجے میں ...جبکہ 16 بچوں سمیت 104 سے زائد افراد زخمی ...ک ہے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ...بچانے کے لیے سمندر کے راستے وہاں سے نکالا ...میں متاثرہ عمارتوں، دھوئیں سے بھرا آسمان اور ...لکتا ہے۔

مسلم نوجوانوں کو مایوسی کے سنگین بحران سے نکالا جائے

جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام 'جمعیۃ یوتھ کلب' تعارفی پروگرام ومظاہرہ کا انعقاد، مولانا محمود مدنی نے تعمیری قدم قرار دیا

دیوبند، 24 جولائی (نامہ نگار): آج یہاں دیوبند کے فردوس گارڈن میں جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام 'جمعیۃ یوتھ کلب' تعارفی پروگرام و مظاہرہ منعقد ہوا، جس کی سرپرستی امیر الہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصورپوری اور صدارت مولانا حبیب صدیقی خازن جمعیۃ علماء ہند نے فرمائی۔ اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا محمود مدنی نے نوجوانوں کو جوڑنے کے لیے اپنے پائلیٹ پروجیکٹ 'جمعیۃ یوتھ کلب' کا تعارف اور خاکہ پیش کیا۔ دریں اثنا تین ریاستوں گجرات، میوات اور مغربی اترپردیش سے منتخب ۹۶ طلبا نے اپنے فن کا بھی مظاہرہ کیا۔ مولانا محمود مدنی نے اعلان کیا کہ موجودہ پلان کے مطابق اگلے چھ ماہ میں دس ہزار نوجوانوں کو تربیت دے کر تیار کیا جائے گا جو فروری 2019ء میں عوامی طور پر اپنی نمائش پیش کریں گے۔ مولانا مدنی نے اس موقع پر یوتھ کلب کے مقاصد پر بھی روشنی ڈالی، انھوں نے کہا کہ یہ منفی نہیں بلکہ تعمیری قدم ہے، ہمارا مقصد ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو قوم کے سچے خادم ہیں اور ضرورت پڑنے پر خود کی حفاظت کے اہل ثابت ہوں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ آج امت سب سے زیادہ داخلی بحران کی شکار ہے، ملک کے موجودہ حالات میں جس طرح مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے، اس سے نوجوانوں میں مایوسی، محرومیت اور اپنی شناخت گم ہونے کا احساس پنپ رہا ہے۔ اس لیے یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اس سنگین بحران سے نکالا جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ امت کا ہر فرد ایک دوسرے کا معاون بن جائے اور مکان کی اینٹ کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہوجائے، وہ اتنا مضبوط ہوجائے کہ کوئی بھی خارجی بحران اس کا بال بیکانہ کر سکے۔ انھوں نے کہا کہ عزت حاصل کرنے کا ایک کامیاب نسخہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا دل جیتیں، اپنے اندر سچائی، ایمانداری، غم گساری اور دوسروں کی مدد کا داعیہ پیدا کریں۔ اگر کسی قوم میں یہ پیدا ہو جائے تو یہ اس کی بقاء و سربلندی کی ضمانت ہے۔

مولانا مدنی نے کہا کہ ہم پچھلے پانچ سالوں سے نوجوانوں کی ذہنی وجسمانی تربیت پر کام کر رہے ہیں، ہم نے پانچ ہزار طلباء کی تربیت کرائی ہے۔ اس کے لیے ملک کا تسلیم شدہ ادارہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کو منتخب کیا ہے، یہ ایسا سسٹم ہے جو انسانی بنیاد پر کام کرتا ہے، یہ آزادی نیشن کا طریقہ سکھلاتا ہے، تاکہ جسمانی اور ذہنی طور سے بہتر طریقے سے خدمت انجام دینے کا ہنر پیدا کیا جائے۔ مولانا مدنی نے جمعیۃ علماء ہند کے ذمہ داروں سے کہا کہ بلاتر دد اس کام میں لگ جائیں اور ہمارے پروجیکٹ کو کامیاب بنائیں۔ انھوں نے جمعیۃ یوتھ کلب کے بارے میں بتایا کہ اسکول اور مدرسے کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شامل ہو سکیں گے، تاہم اسکول اور مدرسے کے بچے ڈائرکٹ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ سے وابستہ ہوں گے اور اٹھارہ مہینہ میں تین درجوں کی تربیت کے بعد 'خادم ملت' میں شامل ہونے کا حق دار ہوں گے اور جو لوگ اسکول اور مدرسے میں نہیں ہیں ان کو ہم ڈائرکٹ جمعیۃ یوتھ کلب میں شامل کریں گے۔ اس موقع پر مولانا عبدالقدوس پالن پوری گجرات، مولانا محمد یحیی کریمی میوات اور مولانا محمد عاقل کیرانہ نے بھی اپنی کارگزاری پیش کی۔ ان کے علاوہ جو شخصیات اسٹیج پر جلوہ افروز تھیں ان میں مولانا معزالدین احمد، مولانا کلیم اللہ فیض آبادی، مولانا مفتی بنیامین، مولانا عاقل گڑھی دولت، حافظ عبید اللہ بنارس وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ مولانا حبیب صدیقی نے اپنے صدارتی خطاب میں تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ انھوں نے بالخصوص پروگرام کے کامیاب انتظام کے لیے مولانا سید محمد مدنی، مولانا ظہور احمد قاسمی، سید ذہین احمد مدنی اور مولانا ابراہیم قاسمی ودیگر حضرات کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر گجرات، میوات اور مغربی اترپردیش سے جمعیۃ یوتھ کلب اور جمعیۃ علماء کے مقامی اور ریاستی ذمہ داران بھی موجود تھے۔ آج کے پروگرام میں قاری احمد عبداللہ نے ترانہ پیش کیا، نظامت کے فرائض مولانا حکیم الدین قاسمی اور نوشاد علی صدیقی نے مشترکہ طور سے انجام دیے۔ مجلس کا آغاز قاری محمد ایوب کی تلاوت سے ہوا۔ مولانا قاری محمد عثمان منصورپوری کی دعاء پر پروگرام اختتام پذیر ہوا۔

ہجومی تشدد کے...

اعلی سطحی کمیٹی کو چار ہفتہ...
ہجومی تشدد کی جانچ...

نئی دہلی، 24 جولائی (وس): ملک میں ... ہجومی تشدد کے بڑھتے واقعات کی مذمت ... کرتے ہوئے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ ... ایک مرتبہ پھر کہا کہ اس معاملے پر حکومت ... سنجیدہ ہے۔ اس کی جانچ کے لئے ایک اعلی ... سطحی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے، جو چار ہفتہ میں ... اپنی رپورٹ دے گی۔ انہوں نے کہا کہ ... ضرورت پڑنے پر حکومت ایسے واقعات ... روکنے کے لئے نیا قانون لے کر آ... گی۔ راجناتھ سنگھ نے منگل کو لوک ... سبھا میں ہجومی تشدد پر کی گئی بحث کا جواب ... دیتے ہوئے یہ یقین دہانی کرائی۔ لوک ...

مرکز کے ذریعہ نا...

حیدرآباد، 24/ جولائی (وس): مرکز کی ... ناانصافی پر احتجاج کے طور پر آج اصل اپوزیشن ... کی جانب سے اے پی بند منایا گیا جو پرامن ... ریاست کے 13 اضلاع میں کئی مقامات پر پا... کی اولین ساعتوں میں ہی سڑکوں پر نکل گئے او... سے روک دیا۔ رات بارہ بجے سے ہی بند کا آ... کارکنوں کی جانب سے بڑے پیمانہ پر احتجاج ... ناگہانی واقعہ سے نمٹنے کیلئے بھاری بندوبست ... 144 نافذ کر دیا گیا۔ کئی مقامات پر پولیس نے ... عوامی نمائندوں کو گھروں پر ہی نظر بند کر دیا۔ ... تعلیمی ادارے، تجارتی ادارے یہاں تک ک...

Inquilab Meerut
25-07-2018

جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام 'جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام ومظاہرہ' کا انعقاد

مولانا محمود مدنی نے کہا: منصوبہ کے مطابق اگلے چھ ماہ میں دس ہزار نوجوانوں کو تربیت دے کر تیار کیا جائے گا

مولانا محمود مدنی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے (تصویر: انقلاب)

دیوبند (فیروز خان) دیوبند میں جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام 'جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام ومظاہرہ' منعقد ہوا، جس کی سرپرستی مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری اور صدارت جمعیۃ علماء ہند کے خازن مولانا حسیب صدیقی نے کی۔ پروگرام کا افتتاح قاری احمد عبداللہ کے ترانہ سے ہوا، اور نظامت مولانا حکیم الدین قاسمی اور نوشاد علی صدیقی نے مشترکہ طور پر کی۔ اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا محمود مدنی نے نوجوانوں کے لیے اپنے پائیلٹ پروجیکٹ 'جمعیۃ یوتھ کلب' کا تعارف اور خاکہ پیش کیا۔ دریں اثنا تین ریاستوں گجرات، میوات اور مغربی اترپردیش سے منتخب ۹۶ طلبا نے اپنے فن کا بھی مظاہرہ کیا۔ اس دوران مولانا محمود مدنی نے اعلان کیا کہ موجودہ پلان کے مطابق اگلے چھ ماہ میں دس ہزار نوجوانوں کو تربیت دے کر تیار کیا جائے گا جو فروری ۲۰۱۹ء میں عوامی طور پر اپنی نمائش پیش کریں گے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ یہ منفی نہیں بلکہ تعمیری قدم ہے، ہمارا مقصد ایسے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے جو قوم کے سچے خادم بنیں اور ضرورت پڑنے پر خود کی حفاظت کے اہل ثابت ہوں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ آج امت سب سے زیادہ داخلی بحران کی شکار ہے، ملک کے موجودہ حالات میں جس طرح مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے، اس سے نوجوانوں میں مایوسی، مرعوبیت اور اپنی شناخت گم ہونے کا احساس پنپ رہا ہے۔ اس لیے یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اس سنگین بحران سے نکالا جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ امت کا ہر فرد ایک دوسرے کا معاون بن جائے اور مکان کی اینٹ کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہوجائے، وہ اتنا مضبوط ہوجائے کہ کوئی بھی خارجی بحران اس کا بال بیکا نہ کرسکے۔ اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری نے کہا کہ نوجوانوں کی جسمانی تربیت بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالے نے جہاں حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بنانے کا ذکر کیا ہے، وہیں جسم اور علم کو فضیلت اور بادشاہت کا سبب قرار دیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہمارے اکابر بالخصوص حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ آخر عمر تک مگدر چلاتے تھے، ہمارے زمانہ طالب علمی میں دارالعلوم دیوبند میں ایک پہلوان رکھا جاتا تھا جو لڑکوں کو جسمانی ورزش کرواتا تھا۔ انھوں نے کہا کہ آج کے حالات میں کچھ جماعتیں کھلے عام آتشیں اسلحوں کی نمائش کرتی ہیں، جن کا مقصد دوسروں کو مرعوب کرنا ہوتا ہے۔ ہم بھی ملک کے قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنے نوجوانوں کی لیاقت کا کھلے عام مظاہرہ کریں گے؟ اسکے علاوہ مولانا حکیم الدین قاسمی سکریٹری جمعیۃ علماء ہند نے بھی مختصر خطاب کیا۔ قبل ازیں مولانا عبدالقدوس پالن پوری گجرات، مولانا محمد یحییٰ کریمی میوات اور مولانا محمد عاقل کیرانہ نے بھی اپنی کارگزاری پیش کی۔ مولانا حسیب صدیقی نے اپنے صدارتی خطاب میں تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ انھوں نے بالخصوص پروگرام کے کامیاب انتظام کے لیے مولانا سید محمد مدنی، مولانا ظہور احمد قاسمی، سید ذہین احمد مدنی اور مولانا ابراہیم قاسمی ودیگر حضرات کو مبارک باد پیش کی۔ پروگرام میں مولانا معزالدین احمد، مولانا کلیم اللہ فیض آبادی، مولانا مفتی بنیامین، مولانا عاقل گڑھی دولت، حافظ عبیداللہ بنارس کے علاوہ گجرات، میوات اور مغربی اترپردیش سے جمعیۃ یوتھ کلب اور جمعیۃ علماء کے مقامی وریاستی ذمہ داران بھی موجود رہے۔ مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری کی دعاء پر پروگرام اختتام پذیر ہوا۔

ہمارا مقصد ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو قوم کے سچے خادم بنیں

اگلے چھ ماہ میں دس ہزار نوجوانوں کو تربیت دے کر تیار کیا جائے گا، جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام میں مولانا سید محمود مدنی کا اظہار خیال

دیوبند (سمیر چودھری) جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام 'جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام و مظاہرہ' کا انعقاد آج یہاں بائی پاس روڈ پر واقع فردوس گارڈن میں کیا گیا۔ جس میں گجرات، میوات اور مغربی اترپردیش سے منتخب ۹۶ طلبا نے اپنے فن کا شاندار مظاہرہ کیا۔ امیر الہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری کی سرپرستی میں منعقد اس پروگرام کی صدارت جمعیۃ علماء ہند کے خازن مولانا حسیب صدیقی نے کی۔ اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا محمود مدنی نے نوجوانوں کو جوڑنے کے لیے اپنے پائلیٹ پروجیکٹ 'جمعیۃ یوتھ کلب' کا تعارف اور خاکہ پیش کیا۔ مولانا محمود مدنی نے اعلان کیا کہ موجودہ پلان کے مطابق اگلے چھ ماہ میں دس ہزار نوجوانوں کو تربیت دے کر تیار کیا جائے گا جو فروری ۲۰۱۹ء میں عوامی طور پر اپنی نمائش پیش کریں گے۔ مولانا مدنی نے اس موقع پر یوتھ کلب کے مقاصد پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ یہ منفی نہیں بلکہ تعمیری قدم ہے، ہمارا مقصد ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو قوم کے سچے خادم بنیں اور ضرورت پڑنے پر خود کی حفاظت کے اہل ثابت ہوں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ آج امت سب سے زیادہ داخلی بحران کی شکار ہے، ملک کے موجودہ حالات میں جس طرح مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے، اس سے نوجوانوں میں مایوسی، مرعوبیت اور اپنی شناخت گم ہونے کا احساس پنپ رہا ہے۔ اس لیے یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اس سنگین بحران سے نکالا جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ امت کا ہر فرد ایک دوسرے کا معاون بن جائے اور مکان کی اینٹ کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہوجائے، وہ اتنا مضبوط ہوجائے کہ کوئی بھی خارجی بحران اس کا بال بیکانہ کرسکے۔ انھوں نے کہا کہ عزت حاصل کرنے کا ایک کامیاب نسخہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا دل جیتیں، اپنے اندر سچائی، ایمانداری، غم گساری اور دوسروں کی مدد کا داعیہ پیدا کریں۔ اگر کسی قوم میں یہ پیدا ہو جائے تو یہ اس کی بقا و سربلندی کی ضمانت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پچھلے پانچ سالوں سے نوجوانوں کی ذہنی وجسمانی تربیت پر کام کررہے ہیں، ہم نے پانچ ہزار طلباء کی تربیت کرائی ہے۔ اس کے لیے ملک کا تسلیم شدہ ادارہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کو منتخب کیا ہے، یہ ایسا سسٹم ہے جو انسانی بنیاد پر کام کرتا ہے، یہ کوآرڈی نیشن کا طریقہ سکھلاتا ہے، تاکہ جسمانی اور ذہنی طور سے بہتر طریقے سے خدمت انجام دینے کا ہنر پیدا کیا جائے۔ انھوں نے جمعیۃ یوتھ کلب کے بارے میں بتایا کہ اسکول اور مدرسے کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شامل ہوسکیں گے، تاہم اسکول اور مدرسے کے بچے ڈائریکٹ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ سے وابستہ ہوں گے اور اٹھارہ مہینہ میں تین درجوں کی تربیت کے بعد 'خادم ملت' میں شامل ہونے کا حق دار ہوں گے اور جو لوگ اسکول اور مدرسے میں نہیں ہیں ان کو ہم ڈائریکٹ جمعیۃ یوتھ کلب میں شامل کریں گے۔ اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے صدر امیر الہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری نے کہا کہ نوجوانوں کی جسمانی تربیت بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالے نے جہاں حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بنانے کا ذکر کیا ہے، وہیں جسم اور علم کو فضیلت اور بادشاہت کا سبب قرار دیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہمارے اکابر بالخصوص حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ آخر عمر تک مگدر چلاتے تھے، ہمارے زمانہ طالب علمی میں دارالعلوم دیوبند میں ایک پہلوان رکھا جاتا تھا جو لڑکوں کو جسمانی ورزش کرواتا تھا۔ قبل ازیں اپنے افتتاحی خطاب میں مولانا حکیم الدین قاسمی سکریٹری جمعیۃ علماء ہند نے جمعیۃ علماء ہند کے دستور و تاریخ کی روشنی میں اس مشن کا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ حضرت ناظم عمومی جمعیۃ علماء ہند کا پائلٹ پروجیکٹ ہے۔ حضرت کی شب و روز محنت و توجہ کی بدولت یہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہدایت اللہ صدیقی سابق افسر بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ مدھیہ پردیش نے اسکاؤٹ اور جمعیۃ یوتھ کلب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ، جمعیۃ یوتھ کلب اور جمعیۃ علماء ہند مل کر ملک اور قوم کی خدمت کریں گے۔ ماسٹر نوشاد علی نے اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے تین بنیادی کام (۱) ڈیوٹی ٹو گوڈ (۲) ڈیوٹی ٹو ادرس (۳) ڈیوٹی ٹو سیلف پر روشنی ڈالی۔ دریں اثناء گجرات، میوات اور مغربی اترپردیش سے منتخب ۹۶ طلبا نے اپنے فن کا شاندار مظاہرہ کیا جس پر ناظرین نے خوب داد و تحسین وصول، بچوں کی منفرد اور شاندار پیشکش دیکھ کر لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہوگئے، بچوں کا فن دیکھنے کے بعد مولانا مدنی نے اپنے ہاتھوں سے انہیں شیلڈ اور سرٹیفیکیٹ سے نوازا۔ اس موقع پر مولانا عبدالقدوس پالن پوری گجرات، مولانا محمد یحیی کریمی میوات اور مولانا محمد عاقل کیرانہ نے بھی اپنی کارگزاری پیش کی۔ مولانا حسیب صدیقی نے اپنے صدارتی خطاب میں تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ خصوصی شرکاء مولانا معزالدین احمد، مولانا کلیم اللہ فیض آبادی، مولانا مفتی بنیامین، مولانا عاقل گڑھی دولت، حافظ عبیداللہ بنارس وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ پروگرام کے انعقاد میں مولانا سید محمد مدنی، مولانا ظہور احمد قاسمی، سید ذہین احمد، عمیر احمد عثمانی، مولانا ابراہیم قاسمی، قاری زبیر احمد قاسمی، چودھری صادق، حاجی مشاد، اسماعیل قریشی و دیگر نے خصوصی تعاون کیا۔ اس موقع پر گجرات، میوات اور مغربی اترپردیش سے جمعیۃ یوتھ کلب اور جمعیۃ علماء کے مقامی و ریاستی ذمہ داران بھی موجود رہے۔ پروگرام میں قاری احمد عبداللہ نے ترانہ پیش کیا، نظامت کے فرائض مولانا حکیم الدین قاسمی اور نوشاد علی صدیقی نے مشترکہ طور سے انجام دیے، مجلس کا آغاز کا قاری محمد ایوب کی تلاوت سے ہوا۔ مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری کی دعاء پر پروگرام اختتام پذیر ہوا۔

DAILY SAHAFAT DELHI
11 ذی قعدہ 1439ھ
25- 07 - 2018

اپنا وطن
www.sahafat.in

موجودہ وقت میں امت سب سے زیادہ داخلی بحران کی شکار

جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام اور اسکاؤٹنگ کے دوران مولانا محمود مدنی کا خطاب

مولانا محمود مدنی خطاب کرتے ہوئے ، فوٹو ایم افسر

اسکاؤٹنگ فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔

دیوبند، 24 جولائی (عارف عثمانی) جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام دیوبند کے فردوس گارڈن میں جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام اور اسکاؤٹنگ کے مظاہرہ کا انعقاد کیا گیا۔اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا محمود مدنی نے نوجوانوں کو وابستہ کرنے کے لیے اپنے پائیلیٹ پروجیکٹ 'جمعیۃ یوتھ کلب' کا تعارف اور خاکہ پیش کیا۔ دریں اثنا تین ریاستوں گجرات، میوات اور مغربی اترپردیش سے منتخب تقریباً 100 طلبا نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔اس دوران مولانا محمود اسعد مدنی نے اعلان کیا کہ مجوزہ پلان کے مطابق اگلے چھ ماہ میں دس ہزار نوجوانوں کو تربیت دے کر تیار کیا جائے گا جو فروری 2019 میں عوامی طور پر اپنی نمائش پیش کریں گے۔مولانا محمود مدنی نے اس موقع پر یوتھ کلب کے مقاصد پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ منفی نہیں بلکہ تعمیری قدم ہے، ہمارا مقصد ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو قوم و وطن کے سچے خادم بنیں اور ضرورت پڑنے پر خود کی حفاظت کے اہل ثابت ہوں۔مولانا مدنی نے کہا کہ آج امت سب سے زیادہ داخلی بحران کی شکار ہے، ملک کے موجودہ حالات میں جس طرح مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے، اس سے نوجوانوں میں مایوسی ، مرعوبیت اور اپنی شناخت گم ہونے کا احساس پنپ رہا ہے۔اس لیے یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اس سنگین بحران سے نکالا جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ امت کا ہر فرد ایک دوسرے کا معاون بن جائے اور مکان کی اینٹ کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہوجائے ،وہ اتنا مضبوط ہوجائے کہ کوئی بھی خارجی بحران اس کا بال بیکا نہ کرسکے۔انھوں نے کہا کہ عزت حاصل کرنے کا ایک کامیاب نسخہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا دل جیتیں، اپنے اندر سچائی، ایمانداری، غم گساری اور دوسروں کی مدد کا داعیہ پیدا کریں۔ اگر کسی قوم میں یہ پیدا ہوجائے تو یہ اس کی بقا و سربلندی کی ضمانت ہے۔انھوں نے کہا کہ ہم پچھلے پانچ سالوں سے نوجوانوں کی ذہنی وجسمانی تربیت پر کام کررہے ہیں، ہم نے اب تک پانچ ہزار طلباء کی تربیت کرائی ہے۔اس کے لیے ملک کا تسلیم شدہ ادارہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کو منتخب کیا ہے، یہ ایسا سسٹم ہے جو انسانی بنیاد پر کام کرتا ہے ، یہ کوآرڈی نیشن کا طریقہ سکھلاتا ہے، تاکہ جسمانی اور ذہنی طور سے بہتر طریقے سے خدمت انجام دینے کا ہنر پیدا کیا جائے۔مولانا مدنی نے جمعیۃ علماء ہند کے ذمہ داروں سے کہا کہ بلا تردد اس کام میں لگ جائیں اور ہمارے پروجیکٹ کو کامیاب بنائیں۔انھوں نے جمعیۃ یوتھ کلب کے بارے میں بتایا کہ اسکول اور مدرسے کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شامل ہوسکیں گے، تاہم اسکول اور مدرسے کے بچے ڈائریکٹ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ سے وابستہ ہوں گے اور اٹھارہ مہینہ میں تین درجوں کی تربیت کے بعد 'خادم ملت' میں شامل ہونے کا حق دار ہوں گے اور جو لوگ اسکول اور مدرسے میں نہیں ہیں ان کو ہم ڈائریکٹ جمعیۃ یوتھ کلب میں شامل کریں گے۔ جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری نے کہا کہ اس وقت نوجوانوں کی جسمانی تربیت بہت ضروری ہے۔انھوں نے کہا کہ ہمارے اکابر بالخصوص حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی آخر عمر تک مگدر چلاتے تھے، ہمارے زمانہ طالب علمی میں دارالعلوم دیوبند میں ایک پہلوان رکھا جاتا تھا جو لڑکوں کو جسمانی ورزش کرواتا تھا۔انھوں نے کہا کہ آج کے حالات میں کچھ جماعتیں کھلے عام آتشی اسلحوں کی نمائش کرتی ہیں ،جن کا مقصد دوسروں کو مرعوب کرنا ہوتا ہے۔ہم بھی ملک کے قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنے نوجوانوں کی لیاقت کا کھلے عام مظاہرہ کریں گے ؟۔ہدایت اللہ صدیقی سابق افسر بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ مدھیہ پردیش نے اسکاؤٹ اور جمعیۃ یوتھ کلب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ، جمعیۃ یوتھ کلب اور جمعیۃ علماء ہند مل کر ملک اور قوم کی خدمت کریں گے۔ماسٹر نوشاد علی نے اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے تین بنیادی کام (۱) ڈیوٹی ٹو گوڈ (۲) ڈیوٹی ٹو ادرس (۳) ڈیوٹی ٹو سیلف پر روشنی ڈالی۔بچوں کا فن دیکھنے کے بعد مولانا مدنی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو شیلڈ اور سرٹیفکیٹ سے نوازا۔مولانا حسیب صدیقی نے اپنے صدارتی خطاب میں تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔اس موقع پر گجرات، میوات اور مغربی اترپردیش سے جمعیۃ یوتھ کلب اور جمعیۃ علماء کے مقامی و ریاستی ذمہ داران بھی موجود تھے۔ آج کے پروگرام میں قاری احمد عبداللہ نے ترانہ پیش کیا، نظامت کے فرائض مولانا حکیم الدین قاسمی اور نوشاد علی صدیقی نے مشترکہ طور سے انجام دیے۔

Hindustan Express
ہندوستان ایکسپریس
2

جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام 'جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام ومظاہرہ منعقد

دیوبند 24/ جولائی (دانیال فیروز خان) دیوبند کے ایک وینکٹ ہال میں جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام 'جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام ومظاہرہ منعقد ہوا' جس کی سرپرستی مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری اور صدارت جمعیۃ علماء ہند کے خازن مولانا حسیب صدیقی نے کی۔ پروگرام کا افتتاح قاری احمد عبداللہ کے ترانہ سے ہوا، نظامت کے فرائض مولانا حکیم الدین قاسمی اور نوشاد علی صدیقی نے مشترکہ طور پر انجام دیئے، مجلس کا آغاز قاری محمد ایوب کی تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا محمود مدنی نے نوجوانوں کے لیے اپنے پائیلٹ پروجیکٹ 'جمعیۃ یوتھ کلب' کا تعارف اور خاکہ پیش کیا۔ دریں اثنا تین ریاستوں گجرات، میوات اور مغربی اتر پردیش سے منتخب ۹۶/ طلبا نے اپنے فن کا بھی مظاہرہ کیا۔ اس دوران مولانا محمود مدنی نے اعلان کیا کہ موجودہ پلان کے مطابق اگلے چھ ماہ میں دس ہزار

نوجوانوں کو تربیت دے کر تیار کیا جائے گا جو فروری ۲۰۱۹ء میں عوامی طور پر اپنی نمائش پیش کریں گے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ یہ منفی نہیں بلکہ تعمیری قدم ہے، ہمارا مقصد ایسے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے جو قوم کے سچے خادم بنیں اور ضرورت پڑنے پر خود کی حفاظت کے اہل ثابت ہوں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ آج امت سب سے زیادہ داخلی بحران کی شکار ہے، ملک کے موجودہ حالات میں جس طرح مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے، اس سے نوجوانوں میں مایوسی، مرعوبیت اور اپنی شناخت گم ہونے کا احساس پنپ رہا ہے۔ اس لیے یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اس سنگین بحران سے نکالا جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ امت کا ہر فرد ایک دوسرے کا معاون بن جائے اور مکان کی اینٹ کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہوجائے، وہ اتنا مضبوط ہوجائے کہ کوئی بھی خارجی بحران اس کا بال بیکا نہ کرسکے۔ اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری نے کہا کہ نوجوانوں کی جسمانی تربیت بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالے نے جہاں حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بنانے کا ذکر کیا ہے، وہیں جسم اور علم کو فضیلت اور بادشاہت کا سبب قرار دیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہمارے اکابر بالخصوص حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ آخر عمر تک مگدر چلاتے تھے۔

جمعیۃ العلماء نے بھی ”سوم سیوکوں“ کی تربیت شروع کی

نوجوانوں کو جوڑنے کیلئے پائیلٹ پروجیکٹ ”جمعیۃ یوتھ کلب“ کا تعارف اور خاکہ پیش

دیوبند، 24؍جولائی: آج یہاں دیوبند کے فردوس گارڈن میں جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام ’جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام ومظاہرہ منعقد ہوا‘ جس کی سرپرستی امیر الہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصورپوری اور صدارت مولانا حسیب صدیقی خازن جمعیۃ علماء ہند نے فرمائی۔ اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا محمود مدنی نے نوجوانوں کو جوڑنے کے لیے اپنے پائیلیٹ پروجیکٹ ’جمعیۃ یوتھ کلب‘ کا تعارف اور خاکہ پیش کیا۔ دریں اثنا تین ریاستوں گجرات، میوات اور مغربی اترپردیش سے منتخب ۹۶؍طلبا نے اپنے فن کا بھی مظاہرہ کیا۔ مولانا محمود مدنی نے اعلان کیا کہ موجودہ پلان کے مطابق اگلے چھ ماہ میں دس ہزار نوجوانوں کو تربیت دے کر تیار کیا جائے گا جو فروری ۲۰۱۹ء میں عوامی طور پر اپنی نمائش پیش کریں گے۔ مولانا مدنی نے اس موقع پر یوتھ کلب کے مقاصد پر بھی روشنی ڈالی، انھوں نے کہا کہ یہ منفی نہیں بلکہ تعمیری قدم ہے، ہمارا مقصد ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو قوم کے سچے خادم بنیں اور ضرورت پڑنے پر خود کی حفاظت کے اہل ثابت ہوں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ آج امت سب سے زیادہ داخلی بحران کی شکار ہے، ملک کے موجودہ حالات میں جس طرح مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے، اس سے نوجوانوں میں مایوسی، مرعوبیت اور اپنی شناخت گم ہونے کا احساس پنپ رہا ہے۔ اس لیے یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اس سنگین بحران سے نکالا جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ امت کا ہر فرد ایک دوسرے کا معاون بن جائے اور مکان کی اینٹ کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہوجائے، وہ اتنا مضبوط ہوجائے کہ کوئی بھی خارجی بحران اس کا بال بیکا نہ کرسکے۔ انھوں نے کہا کہ عزت حاصل کرنے کا ایک کامیاب نسخہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا دل جیتیں، اپنے اندر سچائی، ایمانداری، غم گساری اور دوسروں کی مدد کا داعیہ پیدا کریں۔ اگر کسی قوم میں یہ پیدا ہوجائے تو یہ اس کی بقاو سربلندی کی ضمانت ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہم پچھلے پانچ سالوں سے نوجوانوں کی ذہنی وجسمانی تربیت پر کام کررہے ہیں، ہم نے پانچ ہزار طلباء کی تربیت کرائی ہے۔ اس کے لیے ملک کا تسلیم شدہ ادارہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کو منتخب کیا ہے، یہ ایسا سسٹم ہے جو انسانی بنیاد پر کام کرتا ہے، یہ کوآرڈی نیشن کا طریقہ سکھلاتا ہے، تاکہ جسمانی اور ذہنی طور سے بہتر طریقے سے خدمت انجام دینے کا ہنر پیدا کیا جائے۔ مولانا مدنی نے جمعیۃ علماء ہند کے ذمہ داروں سے کہا کہ بلا تردد اس کام میں لگ جائیں اور ہمارے پروجیکٹ کو کامیاب بنائیں۔ انھوں نے جمعیۃ یوتھ کلب کے بارے میں بتایا کہ اسکول اور مدرسے کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شامل ہوسکیں گے، تاہم اسکول اور مدرسے کے بچے ڈائریکٹ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ سے وابستہ ہوں گے اور اٹھارہ مہینہ میں تین درجوں کی تربیت کے بعد ’خادم ملت‘ میں شامل ہونے کا حق دار ہوں گے اور جو لوگ اسکول اور مدرسے میں نہیں ہیں ان کو ہم ڈائریکٹ جمعیۃ یوتھ کلب میں شامل کریں گے۔ اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے صدر امیر الہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصورپوری نے کہا کہ نوجوانوں کی جسمانی تربیت بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالے نے جہاں حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بنانے کا ذکر کیا ہے، وہیں جسم اور علم کو فضیلت اور بادشاہت کا سبب قرار دیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہمارے اکابر بالخصوص حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ آخر عمر تک مگدر چلاتے تھے، ہمارے زمانہ طالب علمی میں دارالعلوم دیوبند میں ایک پہلوان رکھا جاتا تھا جو لڑکوں کو جسمانی ورزش کرواتا تھا۔ انھوں نے کہا کہ آج کے حالات میں کچھ جماعتیں کھلے عام آتشیں اسلحوں کی نمائش کرتی ہیں، جن کا مقصد دوسروں کو مرعوب کرنا ہوتا ہے۔ ہم بھی ملک کے قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنے نوجوانوں کی لیاقت کا کھلے عام مظاہرہ کریں گے؟ ازیں قبل اپنے افتتاحی خطاب میں مولانا حکیم الدین قاسمی سکریٹری جمعیۃ علماء ہند نے جمعیۃ علماء ہند کے دستور وتاریخ کی روشنی میں اس مشن کا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ حضرت ناظم عمومی جمعیۃ علماء ہند کا پائیلٹ پروجیکٹ ہے۔ حضرت کی شب وروز محنت وتوجہ کی بدولت یہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہدایت اللہ صدیقی سابق افسر بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ مدھیہ پردیش نے اسکاؤٹ اور جمعیۃ یوتھ کلب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ، جمعیۃ یوتھ کلب اور جمعیۃ علماء ہند مل کر ملک اور قوم کی خدمت کریں گے۔ ماسٹر نوشاد علی نے اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے تین بنیادی کام (۱) ڈیوٹی ٹو گوڈ (۲) ڈیوٹی ٹو ادرس (۳) ڈیوٹی ٹو سیلف پر روشنی ڈالی۔ بچوں کا فن دیکھنے کے بعد مولانا مدنی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو شیلڈ اور سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ اس موقع پر مولانا عبدالقدوس پالن پوری گجرات، مولانا محمد یحیی کریمی میوات اور مولانا محمد عاقل کیرانہ نے بھی اپنی کارگزاری پیش کی۔ ان کے علاوہ جو شخصیات اسٹیج پر جلوہ افروز تھیں ان میں مولانا معزالدین احمد، مولانا کلیم اللہ فیض آبادی، مولانا مفتی بنیامین، مولانا عاقل گڑھی دولت، حافظ عبیداللہ بنارس وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ مولانا حسیب صدیقی نے اپنے صدارتی خطاب میں تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ انھوں نے بالخصوص پروگرام کے کامیاب انتظام کے لیے مولانا سید محمد مدنی، مولانا ظہور احمد قاسمی، سید ذہین احمد مدنی اور مولانا ابراہیم قاسمی ودیگر حضرات کو مبارک باد پیش کی۔

دیوبند فردوس گارڈن میں جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام کا منظر۔

NEWS DELHI
(اُردو روزنامہ)
ہند
...ज़ नई दिल्ली
...URD/2009/30050
پرنٹر اینڈ پبلیشر شیخ
ایس پبلی کیشن، ڈی۔ 7
بدھ نگر، یوپی۔ 01301
نفیس روڈ بٹلہ ہاؤس، نئی د
ایڈیٹر :
مینیجنگ ایڈیٹر :
ایسوسی ایٹ ایڈیٹر :
اگیزیکیٹو ایڈیٹر :
...blisher Sheikh
Printed at AGS
-67, Sector-6,
...n Budh Nagar
...nd Published
...fees Road, Batla
...lew Delhi-25
...tor
...zami
...l
...han
...434,9540488194
...daily@gmail.com
...gmail.com

دیو بند: جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام اور اسکاؤٹنگ کا مظاہرہ

دیو بند،24 جولائی (نیوز پوائنٹ) جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام آج یہاں دیو بند کے فردوس گارڈن میں 'جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام اور اسکاؤٹنگ کے مظاہرہ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا محمود مدنی نے نوجوانوں کو وا بستہ کرنے کے لیے اپنے پائیلیٹ پروجیکٹ 'جمعیۃ یوتھ کلب' کا تعارف اور خاکہ پیش کیا۔ دریں اثنا تین ریاستوں گجرات، میوات اور مغربی اتر پردیش سے منتخب تقریباً100 طلبا نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اس دوران مولانا محمود اسعد مدنی نے اعلان کیا کہ مجوزہ پلان کے مطابق اگلے چھ ماہ میں دس ہزار نوجوانوں کو تربیت دے کر تیار کیا جائے گا جو فروری 2019 میں عوامی طور پر اپنی نمائش پیش کریں گے۔ مولانا محمود مدنی نے اس موقع پر یوتھ کلب کے مقاصد پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ منفی نہیں بلکہ تعمیری قدم ہے، ہمارا مقصد ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو قوم و وطن کے سچے خادم بنیں اور ضرورت پڑنے پر خود کی حفاظت کے اہل ثابت ہوں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ آج امت سب سے زیادہ داخلی بحران کی شکار ہے، ملک کے موجودہ حالات میں جس طرح مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے، اس سے نوجوانوں میں مایوسی، مرعوبیت اور اپنی شناخت گم ہونے کا احساس پنپ رہا ہے۔ اس لیے یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اس سنگین بحران سے نکالا جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ امت کا ہر فرد ایک دوسرے کا معاون بن جائے اور مکان کی اینٹ کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہوجائے ،وہ اتنا مضبوط ہوجائے کہ کوئی بھی خارجی بحران اس کا بال بیکا نہ کر سکے۔ انھوں نے کہا کہ عزت حاصل کرنے کا ایک کامیاب نسخہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا دل جیتیں، اپنے اندر سچائی، ایمانداری، غم گساری اور دوسروں کی مدد کا داعیہ پیدا کریں۔ اگر کسی قوم میں یہ پیدا ہو جائے تو یہ اس کی بقا و سربلندی کی ضمانت ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہم پچھلے پانچ سالوں سے نوجوانوں کی ذہنی و جسمانی تربیت پر کام کررہے ہیں، ہم نے اب تک پانچ ہزار طلباء کی تربیت کرائی ہے۔ اس کے لیے ملک کا تسلیم شدہ ادارہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کو منتخب کیا ہے، یہ ایسا سسٹم ہے جو انسانی بنیاد پر کام کرتا ہے، یہ کوآرڈی نیشن کا طریقہ سکھلاتا ہے، تاکہ جسمانی اور ذہنی طور سے بہتر طریقے سے خدمت انجام دینے کا ہنر پیدا کیا جائے۔

مولانا مدنی نے جمعیۃ علماء ہند کے ذمہ داروں سے کہا کہ بلا تردد اس کام میں لگ جائیں اور ہمارے پروجیکٹ کو کامیاب بنائیں۔ انھوں نے جمعیۃ یوتھ کلب کے بارے میں بتایا کہ اسکول اور مدرسے کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شامل ہو سکیں گے، تاہم اسکول اور مدرسے کے بچے ڈائریکٹ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ سے وابستہ ہوں گے اور اٹھارہ مہینہ میں تین درجوں کی تربیت کے بعد 'خادم ملت' میں شامل ہونے کا حق دار ہوں گے اور جو لوگ اسکول اور مدرسے میں نہیں ہیں ان کو ہم ڈائریکٹ جمعیۃ یوتھ کلب میں شامل کریں گے۔ جمعیۃ علماء ہند کے صدر امیر الہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری نے کہا کہ اس وقت نوجوانوں کی جسمانی تربیت بہت ضروری ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہمارے اکابر بالخصوص حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ آخر عمر تک مگدر چلاتے تھے، ہمارے زمانہ طالب علمی میں دارالعلوم دیوبند میں ایک پہلوان رکھا جاتا تھا جو لڑکوں کو جسمانی ورزش کرواتا تھا۔ انھوں نے کہا کہ آج کے حالات میں کچھ جماعتیں کھلے عام آتشی اسلحوں کی نمائش کرتی ہیں، جن کا مقصد دوسروں کو مرعوب کرنا ہوتا ہے۔ ہم بھی ملک کے قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنے نوجوانوں کی لیاقت کا کھلے عام مظاہرہ کریں گے؟ قبل ازیں اپنے افتتاحی خطاب میں مولانا حکیم الدین قاسمی سکریٹری جمعیۃ علماء ہند نے جمعیۃ علماء ہند کے دستور و تاریخ کی روشنی میں اس مشن کا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ حضرت ناظم عمومی جمعیۃ علماء ہند کا پائیلٹ پروجیکٹ ہے۔ حضرت کی شب و روز محنت و توجہ کی بدولت یہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ماسٹر نوشاد علی نے اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے تین بنیادی کام (۱) ڈیوٹی ٹو گوڈ (۲) ڈیوٹی ٹو ادرس (۳) ڈیوٹی ٹو سیلف پر روشنی ڈالی۔ بچوں کا فن دیکھنے کے بعد مولانا مدنی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو شیلڈ اور سرٹیفیکٹ سے نوازا۔ اس موقع پر مولانا عبدالقدوس پالن پوری گجرات، مولانا محمد یحییٰ کریمی میوات اور مولانا محمد عاقل کیرانہ نے بھی اپنی کارگزاری پیش کی۔ مولانا معزالدین احمد، مولانا کلیم اللہ فیض آبادی، مولانا مفتی بنیامین، مولانا عاقل گڑھی دولت، حافظ عبیداللہ بنارس وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ مولانا حسیب صدیقی نے اپنے صدارتی خطاب میں تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ انھوں نے بالخصوص پروگرام کے کامیاب انتظام کے لیے مولانا سید محمد مدنی، مولانا ظہور احمد قاسمی، سید ذہین احمد اور مولانا ابراہیم قاسمی، عمیر عثمانی، چودھری صادق، اسمٰعیل قریشی، قاری سلیم و دیگر حضرات کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر گجرات، میوات اور مغربی اتر پردیش سے جمعیۃ یوتھ کلب اور جمعیۃ علماء کے مقامی و ریاستی ذمہ داران بھی موجود تھے۔ آج کے پروگرام میں قاری احمد عبداللہ نے ترانہ پیش کیا، نظامت کے فرائض مولانا حکیم الدین قاسمی اور نوشاد علی صدیقی نے مشترکہ طور سے انجام دیے، مجلس کا آغاز کا قاری محمد ایوب کی تلاوت سے ہوا۔ مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری کی دعاء پر پروگرام اختتام پذیر ہوا۔

روزنامہ
سنگم
پٹنہ
Estd. : 1952
The Premier Urdu Daily
SANGAM
संगम

مسلم نوجوانوں کو مایوسی کے سنگین بحران سے نکالا جائے

جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام 'جمعیۃ یوتھ کلب' تعارفی پروگرام ومظاہرہ کا انعقاد، مولانا محمود مدنی نے تعمیری قدم قرار دیا

دیوبند،24جولائی (پریس ریلیز)۔آج یہاں دیوبند کے فردوس گارڈن میں جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام 'جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام ومظاہرہ منعقد ہوا' جس کی سرپرستی امیر الہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری اور صدارت مولانا حسیب صدیقی خازن جمعیۃ علماء ہند نے فرمائی۔اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا محمود مدنی نے نوجوانوں کو جوڑنے کے لیے اپنے پائیلیٹ پروجیکٹ 'جمعیۃ یوتھ کلب' کا تعارف اور خاکہ پیش کیا۔دریں اثنا تین ریاستوں گجرات، میوات اور مغربی اترپردیش سے منتخب ۹۶/طلبا نے اپنے فن کا بھی مظاہرہ کیا۔مولانا محمود مدنی نے اعلان کیا کہ موجودہ پلان کے مطابق اگلے چھ ماہ میں دس ہزار نوجوانوں کو تربیت دے کر تیار کیا جائے گا جو فروری 2019ء میں عوامی طور پر اپنی نمائش پیش کریں گے۔مولانا مدنی نے اس موقع پر یوتھ کلب کے مقاصد پر بھی روشنی ڈالی،انھوں نے کہا کہ یہ منفی نہیں بلکہ تعمیری قدم ہے،ہمارا مقصد ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو قوم کے سچے خادم بنیں اور ضرورت پڑنے پر خود کی حفاظت کے اہل ثابت ہوں۔مولانا مدنی نے کہا کہ آج امت سب سے زیادہ داخلی بحران کی شکار ہے،ملک کے موجودہ حالات میں جس طرح مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے،اس سے نوجوانوں میں مایوسی،مرعوبیت اور اپنی شناخت گم ہونے کا احساس پنپ رہا ہے۔اس لیے یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اس سنگین بحران سے نکالا جائے۔یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ امت کا ہر فرد ایک دوسرے کا معاون بن جائے اور مکان کی اینٹ کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہوجائے ،وہ اتنا مضبوط ہوجائے کہ کوئی بھی خارجی بحران اس کا بال بیکا نہ کرسکے۔انھوں نے کہا کہ عزت حاصل کرنے کا ایک کامیاب نسخہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا دل جیتیں،اپنے اندر سچائی،ایمانداری،غم گساری اور دوسروں کی مدد کا داعیہ پیدا کریں۔اگر کسی قوم میں یہ پیدا ہوجائے تو یہ اس کی بقا وسربلندی کی ضمانت ہے۔مولانا مدنی نے کہا کہ ہم پچھلے پانچ سالوں سے نوجوانوں کی ذہنی وجسمانی تربیت پر کام کررہے ہیں، ہم نے پانچ ہزار طلباء کی تربیت کرائی ہے۔اس کے لیے ملک کا تسلیم شدہ ادارہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کو منتخب کیا ہے،یہ ایسا سسٹم ہے جو انسانی بنیاد پر کام کرتا ہے،یہ کوآرڈی نیشن کا طریقہ سکھلاتا ہے،تاکہ جسمانی اور ذہنی طور سے بہتر طریقے سے خدمت انجام دینے کا ہنر پیدا کیا جائے۔مولانا مدنی نے جمعیۃ علماء ہند کے ذمہ داروں سے کہا کہ بلا تردد اس کام میں لگ جائیں اور ہمارے پروجیکٹ کو کامیاب بنائیں ۔انھوں نے جمعیۃ یوتھ کلب کے بارے میں بتایا کہ اسکول اور مدرسے کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شامل ہوسکیں گے،تاہم اسکول اور مدرسے کے بچے ڈائریکٹ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ سے وابستہ ہوں گے اور اٹھارہ مہینہ میں تین درجوں کی تربیت کے بعد 'خادم ملت' میں شامل ہونے کا حق دار رہوں گے اور جو لوگ اسکول اور مدرسے میں نہیں ہیں ان کو ہم ڈائریکٹ جمعیۃ یوتھ کلب میں شامل کریں گے۔اس موقع پر مولانا عبدالقدوس پالن پوری گجرات،مولانا محمد یحیی کریمی میوات اور مولانا محمد عاقل کیرانہ نے بھی اپنی کارگزاری پیش کی۔ان کے علاوہ جو شخصیات اسٹیج پر جلوہ افروز تھیں ان میں مولانا معزالدین احمد،مولانا کلیم اللہ فیض آبادی،مولانا مفتی بنیامین، مولانا عاقل گڑھی دولت،حافظ عبیداللہ بنارس وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ مولانا حسیب صدیقی نے اپنے صدارتی خطاب میں تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔انھوں نے بالخصوص پروگرام کے کامیاب انتظام کے لیے مولانا سید محمد مدنی،مولانا ظہور احمد قاسمی،سید ذہین احمد مدنی اور مولانا ابراہیم قاسمی ودیگر حضرات کو مبارک باد پیش کی۔اس موقع پر گجرات، میوات اور مغربی اترپردیش سے جمعیۃ یوتھ کلب اور جمعیۃ علماء کے مقامی وریاستی ذمہ داران بھی موجود تھے۔آج کے پروگرام میں قاری احمد عبداللہ نے ترانہ پیش کیا ،نظامت کے فرائض مولانا حکیم الدین قاسمی اور نوشاد علی صدیقی نے مشترکہ طور سے انجام دیے،مجلس کا آغاز کا قاری محمد ایوب کی تلاوت سے ہوا۔مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری کی دعاء پر پروگرام اختتام پذیر ہوا۔

DAILY FAROOQUI TANZEEM RANCHI
WEDNESDAY 25-07-2018
www.farooquitanzeem.com

روزنامہ فاروقی تنظیم رانچی
FAROOQUI TANZEEM فاروقی تنظیم NO-1

جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام ومظاہرہ منعقد

تین ریاستوں گجرات، میوات اور مغربی اترپردیش سے منتخب ۹۶/ طلبا نے اپنے فن کا بھی مظاہرہ کیا

دیوبند ۔ (پی۔آر) آج یہاں دیوبند کے فردوس گارڈن میں جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام 'جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام ومظاہرہ منعقد ہوا' جس کی سرپرستی امیر الہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصورپوری اور صدارت مولانا حسیب صدیقی خازن جمعیۃ علماء ہند نے فرمائی۔اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا محمود مدنی نے نوجوانوں کو جوڑنے کے لیے اپنے پائیلیٹ پروجیکٹ 'جمعیۃ یوتھ کلب' کا تعارف اور خاکہ پیش کیا۔ دریں اثنا تین ریاستوں گجرات، میوات اور مغربی اترپردیش سے منتخب ۹۶/ طلبا نے اپنے فن کا بھی مظاہرہ کیا۔مولانا محمود مدنی نے اعلان کیا کہ موجودہ پلان کے مطابق اگلے چھ ماہ میں دس ہزار نوجوانوں کو تربیت دے کر تیار کیا جائے گا جو فروری ۲۰۱۹ء میں عوامی طور پر اپنی نمائش پیش کریں گے۔مولانا مدنی نے اس موقع پر یوتھ کلب کے مقاصد پر بھی روشنی ڈالی، انھوں نے کہا کہ یہ منفی نہیں بلکہ تعمیری قدم ہے، ہمارا مقصد ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو قوم کے سچے خادم بنیں اور ضرورت پڑنے پر خود کی حفاظت کے اہل ثابت ہوں۔مولانا مدنی نے کہا کہ آج امت سب سے زیادہ داخلی بحران کی شکار ہے، ملک کے موجودہ حالات میں جس طرح مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے، اس سے نوجوانوں میں مایوسی، مرعوبیت اور اپنی شناخت گم ہونے کا احساس پنپ رہا ہے۔اس لیے یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اس سنگین بحران سے نکالا جائے۔یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ امت کا ہر فرد ایک دوسرے کا معاون بن جائے اور مکان کی اینٹ کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہوجائے، وہ اتنا مضبوط ہوجائے کہ کوئی بھی خارجی بحران اس کا بال بیکا نہ کرسکے۔انھوں نے کہا کہ عزت حاصل کرنے کا ایک کامیاب نسخہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا دل جیتیں، اپنے اندر سچائی، ایمانداری، غم گساری اور دوسروں کی مدد کا داعیہ پیدا کریں۔اگر کسی قوم میں یہ پیدا ہوجائے تو یہ اس کی بقاو سربلندی کی ضمانت ہے۔مولانا مدنی نے کہا کہ ہم پچھلے پانچ سالوں سے نوجوانوں کی ذہنی وجسمانی تربیت پر کام کررہے ہیں، ہم نے پانچ ہزار طلباء کی تربیت کرائی ہے۔اس کے لیے ملک کا تسلیم شدہ ادارہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کو منتخب کیا ہے، یہ ایسا سسٹم ہے جو انسانی بنیاد پر کام کرتا ہے، یہ کوآرڈی نیشن کا طریقہ سکھلاتا ہے، تاکہ جسمانی اور ذہنی طور سے بہتر طریقے سے خدمت انجام دینے کا ہنر پیدا کیا جائے۔مولانا مدنی نے جمعیۃ علماء ہند کے ذمہ داروں سے کہا کہ بلا تردد اس کام میں لگ جائیں اور ہمارے پروجیکٹ کو کامیاب بنائیں۔انھوں نے جمعیۃ یوتھ کلب کے بارے میں بتایا کہ اسکول اور مدرسے کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شامل ہوسکیں گے، تاہم اسکول اور مدرسے کے بچے ڈائریکٹ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ سے وابستہ ہوں گے اور اٹھارہ مہینہ میں تین درجوں کی تربیت کے بعد 'خادم ملت' میں شامل ہونے کا حق دار ہوں گے اور جو لوگ اسکول اور مدرسے میں نہیں ہیں ان کو ہم ڈائریکٹ جمعیۃ یوتھ کلب میں شامل کریں گے۔ اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے صدر امیر الہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصورپوری نے کہا کہ نوجوانوں کی جسمانی تربیت بہت ضروری ہے۔قرآن مجید میں اللہ تعالے نے جہاں حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بنانے کا ذکر کیا ہے، وہیں جسم اور علم کو فضیلت اور بادشاہت کا سبب قرار دیا ہے۔انھوں نے کہا کہ ہمارے اکابر بالخصوص حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ آخر عمر تک مگدر چلاتے تھے، ہمارے زمانہ طالب علمی میں دارالعلوم دیوبند میں ایک پہلوان رکھا جاتا تھا جو لڑکوں کو جسمانی ورزش کرواتا تھا۔انھوں نے کہا کہ آج کے حالات میں کچھ جماعتیں کھلے عام آتشیں اسلحوں کی نمائش کرتی ہیں، جن کا مقصد دوسروں کو مرعوب کرنا ہوتا ہے۔ہم بھی ملک کے قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنے نوجوانوں کی لیاقت کا کھلے عام مظاہرہ کریں گے؟ازیں قبل اپنے افتتاحی خطاب میں مولانا حکیم الدین قاسمی سکریٹری جمعیۃ علماء ہند نے جمعیۃ علماء ہند کے دستور وتاریخ کی روشنی میں اس مشن کا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ حضرت ناظم عمومی جمعیۃ علماء ہند کا پائیلٹ پروجیکٹ ہے۔حضرت کی شب و روز محنت وتوجہ کی بدولت یہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ہدایت اللہ صدیقی سابق افسر بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ مدھیہ پردیش نے اسکاؤٹ اور جمعیۃ یوتھ کلب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ، جمعیۃ یوتھ کلب اور جمعیۃ علماء ہند مل کر ملک اور قوم کی خدمت کریں گے۔ماسٹر نوشاد علی نے اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے تین بنیادی کام (۱) ڈیوٹی ٹو گوڈ (۲) ڈیوٹی ٹو ادرس (۳) ڈیوٹی ٹو سیلف پر روشنی ڈالی۔ بچوں کا فن دیکھنے کے بعد مولانا مدنی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو شیلڈ اور سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ اس موقع پر مولانا عبدالقدوس پالن پوری گجرات، مولانا محمد یحیی کریمی میوات اور مولانا محمد عاقل کیرانہ نے بھی اپنی کارگزاری پیش کی۔ان کے علاوہ جو شخصیات اسٹیج پر جلوہ افروز تھیں ان میں مولانا معزالدین احمد، مولانا کلیم اللہ فیض آبادی، مولانا مفتی بنیامین، مولانا عاقل گڑھی دولت، حافظ عبیداللہ بنارس وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔مولانا حسیب صدیقی نے اپنے صدارتی خطاب میں تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔انھوں نے بالخصوص پروگرام کے کامیاب انتظام کے لیے مولانا سید محمد مدنی، مولانا ظہور احمد قاسمی، سید ذہین احمد مدنی اور مولانا ابراہیم قاسمی ودیگر حضرات کو مبارک باد پیش کی۔اس موقع پر گجرات، میوات اور مغربی اترپردیش سے جمعیۃ یوتھ کلب اور جمعیۃ علماء کے مقامی وریاستی ذمہ داران بھی موجود تھے۔آج کے پروگرام میں قاری احمد عبداللہ نے ترانہ پیش کیا، نظامت کے فرائض مولانا حکیم الدین قاسمی اور نوشاد علی صدیقی نے مشترکہ طور سے انجام دیے، مجلس کا آغاز کا قاری محمد ایوب کی تلاوت سے ہوا۔مولانا قاری محمد عثمان منصورپوری کی دعاء پر پروگرام اختتام پذیر ہوا۔

دہلی اور پٹنہ سے ایک ساتھ شائع ہونے والا اردو روزنامہ
Published Simultaneously from Delhi and Patna
Daily HAMARA SAMAJ Del
روزنامہ دہلی
ہمارا سماج
दैनिक हमारा समाज दिल्ली

یوتھ کلب کا قیام منفی نہیں، تعمیری قدم ہے: مولانا محمود مدنی

جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام دیوبند کے فردوس گارڈن میں جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام اور اسکاؤٹنگ کے مظاہرہ کا انعقاد

رضوان سلمانی

دیوبند، 24 جولائی، سماج نیوز سروس: جمعیۃ علماء ہند کے زیر اہتمام آج یہاں دیوبند کے فردوس گارڈن میں 'جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام اور اسکاؤٹنگ کے مظاہرہ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا محمود مدنی نے نوجوانوں کو وابستہ کرنے کیلئے اپنے پائلیٹ پروجیکٹ 'جمعیۃ یوتھ کلب' کا تعارف اور خاکہ پیش کیا۔ دریں اثنا تین ریاستوں گجرات، میوات اور مغربی اتر پردیش سے منتخب تقریباً 100 طلبا نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اس دوران مولانا محمود اسعد مدنی نے اعلان کیا کہ مجوزہ پلان کے مطابق اگلے چھ ماہ میں دس ہزار نوجوانوں کو تربیت دے کر تیار کیا جائے گا جو فروری 2019 میں عوامی طور پر اپنی نمائش پیش کریں گے۔ مولانا محمود مدنی نے اس موقع پر یوتھ کلب کے مقاصد پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ منفی نہیں بلکہ تعمیری قدم ہے، ہمارا مقصد ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو قوم و وطن کے سچے خادم بنیں اور ضرورت پڑنے پر خود کی حفاظت کے اہل ثابت ہوں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ آج امت سب سے زیادہ داخلی بحران کی شکار ہے، ملک کے موجودہ حالات میں جس طرح مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے، اس سے نوجوانوں میں مایوسی، مرعوبیت اور اپنی شناخت گم ہونے کا احساس پنپ رہا ہے۔ اس لیے یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اس سنگین بحران سے نکالا جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ امت کا ہر فرد ایک دوسرے کا معاون بن جائے اور مکان کی اینٹ کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہوجائے، وہ اتنا مضبوط ہوجائے کہ کوئی بھی خارجی بحران اس کا بال بیکا نہ کرسکے۔ انہوں نے کہا کہ عزت حاصل کرنے کا ایک کامیاب نسخہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا دل جیتیں، اپنے اندر سچائی، ایمانداری، غم گساری اور دوسروں کی مدد کا داعیہ پیدا کریں۔۔۔۔۔

(باقی صفحہ: 7 پر)

بقیہ: یوتھ کلب کا قیام منفی نہیں بلکہ تعمیری قدم ہے: مولانا محمود مدنی۔۔۔۔

۔۔۔ اگر کسی قوم میں یہ پیدا ہوجائے تو یہ اس کی بقا و سربلندی کی ضمانت ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہم پچھلے پانچ سالوں سے نوجوانوں کی ذہنی و جسمانی تربیت پر کام کر رہے ہیں، ہم نے اب تک پانچ ہزار طلباء کی تربیت کرائی ہے۔ اس کے لیے ملک کا تسلیم شدہ ادارہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کو منتخب کیا ہے، یہ ایسا سسٹم ہے جو انسانی بنیاد پر کام کرتا ہے، یہ کوآرڈی نیشن کا طریقہ سکھلاتا ہے، تاکہ جسمانی اور ذہنی طور سے بہتر طریقے سے خدمت انجام دینے کا ہنر پیدا کیا جائے۔ مولانا مدنی نے جمعیۃ علماء ہند کے ذمہ داروں سے کہا کہ بلاتردد اس کام میں لگ جائیں اور ہمارے پروجیکٹ کو کامیاب بنائیں۔ انھوں نے جمعیۃ یوتھ کلب کے بارے میں بتایا کہ اسکول اور مدرسے کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شامل ہوسکیں گے، تاہم اسکول اور مدرسے کے بچے ڈائریکٹ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ سے وابستہ ہوں گے اور اٹھارہ مہینہ میں تین درجوں کی تربیت کے بعد 'خادم ملت' میں شامل ہونے کا حق دار ہوں گے اور جو لوگ اسکول اور مدرسے میں نہیں ہیں ان کو ہم ڈائریکٹ جمعیۃ یوتھ کلب میں شامل کریں گے۔ جمعیۃ علماء ہند کے صدر امیر الہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری نے کہا کہ اس وقت نوجوانوں کی جسمانی تربیت بہت ضروری ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہمارے اکابر بالخصوص حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ آخر عمر تک مگدر چلاتے تھے، ہمارے زمانہ طالب علمی میں دارالعلوم دیوبند میں ایک پہلوان رکھا جاتا تھا جو لڑکوں کو جسمانی ورزش کرواتا تھا۔ انھوں نے کہا کہ آج کے حالات میں کچھ جماعتیں کھلے عام آتشی اسلحوں کی نمائش کرتی ہیں، جن کا مقصد دوسروں کو مرعوب کرنا ہوتا ہے۔ ہم بھی ملک کے قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنے نوجوانوں کی لیاقت کا کھلے عام مظاہرہ کریں گے؟ قبل ازیں اپنے افتتاحی خطاب میں مولانا حکیم الدین قاسمی سکریٹری جمعیۃ علماء ہند نے جمعیۃ علماء ہند کے دستور و تاریخ کی روشنی میں اس مشن کا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ حضرت ناظم عمومی جمعیۃ علماء ہند کا پائلٹ پروجیکٹ ہے۔ حضرت کی شب و روز محنت و توجہ کی بدولت یہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہدایت اللہ صدیقی سابق افسر بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ مدھیہ پردیش نے اسکاؤٹ اور جمعیۃ یوتھ کلب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ، جمعیۃ یوتھ کلب اور جمعیۃ علماء ہند مل کر ملک اور قوم کی خدمت کریں گے۔ ماسٹر نوشاد علی نے اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے تین بنیادی کام (۱) ڈیوٹی ٹو گوڈ (۲) ڈیوٹی ٹو اورس (۳) ڈیوٹی ٹو سیلف پر روشنی ڈالی۔ بچوں کا فن دیکھنے کے بعد مولانا مدنی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو شیلڈ اور سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ اس موقع پر مولانا عبدالقدوس پالن پوری گجرات، مولانا محمد یحییٰ کریمی میوات اور مولانا محمد عاقل کیرانہ نے بھی اپنی کارگزاری پیش کی۔ مولانا معز الدین احمد، مولانا کلیم اللہ فیض آبادی، مولانا مفتی بنیامین، مولانا عاقل گڑھی دولت، حافظ عبیداللہ بنارس وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ مولانا حسیب صدیقی نے اپنے صدارتی خطاب میں تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ انھوں نے بالخصوص پروگرام کے کامیاب انتظام کے لیے مولانا سید محمد مدنی، مولانا ظہور احمد قاسمی، سید ذہین احمد اور مولانا ابراہیم قاسمی، عمیر عثمانی، چودھری صادق، اسمٰعیل قریشی، قاری سلیم و دیگر حضرات کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر گجرات، میوات اور مغربی اتر پردیش سے جمعیۃ یوتھ کلب اور جمعیۃ علماء کے مقامی و ریاستی ذمہ داران بھی موجود تھے۔ آج کے پروگرام میں قاری احمد عبداللہ نے ترانہ پیش کیا، نظامت کے فرائض مولانا حکیم الدین قاسمی اور نوشاد علی صدیقی نے مشترکہ طور سے انجام دیے، مجلس کا آغاز قاری محمد ایوب کی تلاوت سے ہوا۔ مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری کی دعاء پر پروگرام اختتام پذیر ہوا۔

ہندوستان کا نمبر ایک اردو اخبار

روزنامہ راشٹریہ سہارا

ROZNAMA RASHTRIYA SAHARA NEW DELHI

...taneously from New Delhi, Lucknow, Gorakhpur, Mumbai, Hyderabad, Kolkata, Patna, Kanpur & Bangalore

11/ذی قعدہ 1439ھ بدھ (سٹی) قیمت: Rs.3.00 صفحات 12 «یعنی مکمل سچ» ○ حب الوطنی ○ فرض شناسی ○ ایثار 25-07-2018

2 ...کیڈا: معاشقہ ...تھا ماں، بیٹا ...ی کا قتل

...کس بھر ... ریاست ...ے امیر 10

جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام اور اسکاؤٹنگ کا مظاہرہ

مسلمانوں کو سنگین بحران سے نکالنا وقت کی ضرورت: مولانا محمود مدنی

دیوبند (ایس این بی)

جمعیۃ علماء ہند کی جانب سے آج یہاں دیوبند کے فردوس گارڈن میں 'جمعیۃ یوتھ کلب تعارفی پروگرام اور اسکاؤٹنگ کا مظاہرہ منعقد ہوا' جس کی سرپرستی امیر الہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری اور صدارت مولانا حسیب صدیقی خازن جمعیۃ علماء ہند نے فرمائی۔ اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا محمود مدنی نے نوجوانوں کو وابستہ کرنے کے لیے اپنے پائلیٹ پروجیکٹ 'جمعیۃ یوتھ کلب' کا تعارف اور خاکہ پیش کیا۔ دریں اثنا 3 ریاستوں گجرات، میوات اور مغربی اتر پردیش سے منتخب 96 طلبا نے اپنے فن کا بھی مظاہرہ کیا ۔مولانا محمود مدنی نے اعلان کیا کہ مجوزہ پلان کے مطابق اگلے 6 ماہ میں دس ہزار نوجوانوں کو تربیت دے کر تیار کیا جائے گا جو فروری 2019 میں عوامی طور پر اپنی نمائش پیش کریں گے۔

مولانا محمود مدنی نے اس موقع پر یوتھ کلب کے مقاصد پر بھی روشنی ڈالی ، انھوں نے کہا کہ یہ منفی نہیں بلکہ تعمیری قدم ہے، ہمارا مقصد ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو قوم و وطن کے سچے خادم بنیں اور ضرورت پڑنے پر خود کی حفاظت کے اہل ثابت ہوں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ آج امت سب سے زیادہ داخلی بحران کی شکار ہے، ملک کے موجودہ حالات میں جس طرح مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے، اس سے نوجوانوں میں مایوسی ، مرعوبیت اور اپنی شناخت گم ہونے کا احساس پنپ رہا ہے اس لیے یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اس سنگین بحران سے نکالا جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ امت کا ہر فرد ایک دوسرے کا معاون بن جائے اور مکان کی اینٹ کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہوجائے ،وہ اتنا مضبوط ہوجائے کہ کوئی بھی خارجی بحران اس کا بال بیکا نہ کرسکے۔ انھوں نے کہا کہ عزت حاصل کرنے کا ایک کامیاب نسخہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا دل جیتیں، اپنے اندر سچائی، ایمانداری ،غم گساری اور دوسروں کی مدد کا داعیہ پیدا کریں۔ اگر کسی قوم میں یہ پیدا ہوجائے تو یہ اس کی بقا و سربلندی کی ضمانت ہے۔ مولانا مدنی نے جمعیۃ علماء ہند کے ذمہ داروں سے کہا کہ بلا تردد اس کام میں لگ جائیں اور ہمارے پروجیکٹ کو کامیاب بنائیں۔

واضح ہو کہ مولانا سید محمود اسعد مدنی کی ایما پر نوجوانوں میں ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنے اور آڑے وقت کے لیے تربیت دینے کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کررہا ہے اور اس کو قابل قدر نظر سے دیکھا جارہا ہے۔ اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے صدر امیر الہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری نے کہا کہ نوجوانوں کی جسمانی تربیت بہت ضروری ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہمارے اکابر بالخصوص حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ آخر عمر تک مگدر چلاتے تھے ، ہمارے زمانہ طالب علمی میں دارالعلوم دیوبند میں ایک پہلوان رکھا جاتا تھا جو لڑکوں کو جسمانی ورزش کرواتا تھا۔ انھوں نے کہا کہ آج کے حالات میں کچھ جماعتیں کھلے عام آتشیں اسلحوں کی نمائش کرتی ہیں ، جن کا مقصد دوسروں کو مرعوب کرنا ہوتا ہے۔ ہم بھی ملک کے قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنے نوجوانوں کی لیاقت کا کھلے عام مظاہرہ کریں گے۔

قبل ازاں اپنے افتتاحی خطاب میں مولانا حکیم الدین قاسمی سکریٹری جمعیۃ علماء ہند نے جمعیۃ علماء ہند کے دستور و تاریخ کی روشنی میں اس مشن کا تعارف کرایا۔ ہدایت اللہ صدیقی سابق افسر بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ مدھیہ پردیش نے اسکاؤٹ اور جمعیۃ یوتھ کلب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائڈ، جمعیۃ یوتھ کلب اور جمعیۃ علماء ہند مل کر ملک اور قوم کی خدمت کریں گے۔ ماسٹر نوشاد علی نے اسکاؤٹ اینڈ گائڈ کے 3 بنیادی کام ڈیوٹی ٹو گوڈ، ڈیوٹی ٹو ادرس اور ڈیوٹی ٹو سیلف پر روشنی ڈالی۔ بچوں کا فن دیکھنے کے بعد مولانا مدنی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو شیلڈ اور سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ اس موقع پر مولانا عبدالقدوس پالن پوری گجرات، مولانا محمد یحییٰ کریمی میوات اور مولانا محمد عاقل کیرانہ نے بھی اپنی کارگزاری پیش کی۔

ان کے علاوہ جو شخصیات اسٹیج پر جلوہ افروز تھیں ان میں مولانا معزالدین احمد، مولانا کلیم اللہ فیض آبادی، مولانا مفتی بنیامین، مولانا عاقل گڑھی دولت، حافظ عبیداللہ بنارس وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ مولانا حسیب صدیقی نے اپنے صدارتی خطاب میں تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔

انھوں نے بالخصوص پروگرام کے کامیاب انتظام کے لیے مولانا سید محمد مدنی، مولانا ظہور احمد قاسمی، سید ذہین احمد مدنی اور مولانا ابراہیم قاسمی، عمیر عثمانی، چودھری صادق، اسمٰعیل قریشی ، قاری سلیم ودیگر حضرات کو مبارک باد پیش کی۔ آج کے پروگرام میں قاری احمد عبداللہ نے ترانہ پیش کیا ،نظامت کے فرائض مولانا حکیم الدین قاسمی اور نوشاد علی صدیقی نے مشترکہ طور سے انجام دیے، مجلس کا آغاز کا قاری محمد ایوب کی تلاوت سے ہوا۔ مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری کی دعا پر پروگرام اختتام پذیر ہوا۔